

ORDER

22nd Sept, 2022

1. Learned counsel for the appellant present. Mr. Kabirullah Khattak, Addl: AG for respondents present.

2. Vide our detailed judgment of today placed in Service Appeal No. 7392/2021 titled "Majid Ali-vs- Provincial Police Officer, Khyber Pakhtunkhwa and others" (copy placed in this file), this appeal is also decided on the said terms. Costs shall follow the events. Consign.

3. *Pronounced in open court in Abbottabad and given under our hands and seal of the Tribunal on this 22nd day of Sept, 2022.*



(Kalim Arshad Khan)
Chairman
Camp Court Abbottabad

(Kareeha Paul)
Member(Executive)
Camp Court Abbottabad

21th July 2022

Learned counsel for the appellant present.
Kabiruallah Khattak, Addl: AG and Mr. Noor Zaman
Khattak, District Attorney for respondents present.

Learned counsel for the appellant seeks
adjournment on the ground that he has not prepared the
case. Adjourned. To come up for arguments on
22.09.2022 before D.B at camp court Abbottabad.



(Salah Ud Din)
Member (Judicial)



(Kalim Arshad Khan)
Chairman
Camp Court Abbottabad

19.01.2022

Learned counsel for the appellant present. Mr. Shamraiz Khan, ASI alongwith Mr. Kabirullah Khattak, Additional Advocate General for the respondents present and sought time for submission of written reply/comments. Adjourned. To come up for written reply/comments on 14.02.2022 before the S.B at Camp Court Abbottabad.



(Salah-ud-Din)
Member (J)
Camp Court A/Abad

17.05 2022

Counsel for the appellant present. Mr. Muhamad Riaz Khan Paindakhel, Assistant Advocate General alongwith Mr. Shamraiz, SI for the respondents present.

Written reply/comments on behalf of respondents submitted which is placed on filed. A copy of the same is handed over to the learned counsel for the appellant. To come up for rejoinder as well as arguments before D.B on 15.06.2022 at camp court Abbottabad.



(Kalim Arshad Khan)
Chairman
Camp Court Abbottabad

15.06.2022

Appellant present through counsel.

Noor Zaman Khan Khattak, learned District Attorney alongwith Shamrazi ASI (Legal) for respondents present.

A request was made for adjournment on behalf of learned counsel for the appellant in order to produce relevant documents; granted. Learned DDA also requested for placing on file relevant record in respect of inquiry which is allowed and the entire record is placed on file. To come up for arguments on 21.07.2022 before D.B at Camp Court, Abbottabad.



(Fareeha Paul)
Member (E)
Camp Court, A/Abad



(Rozina Rehman)
Member (J)
Camp Court, A/Abad

01.11.2021

Appellant in person present. Preliminary arguments heard and case file perused.

Learned counsel for the appellant argued that the appellant is aggrieved of original impugned order dated 10.06.2021 whereby he was dismissed from service. The appellant preferred departmental appeal on 21.06.2021 which was filed vide appellate order dated 12.08.2021, hence, the instant service appeal instituted in Service Tribunal on 10.09.2021. Moreover, the ends of justice have not been met. Neither opportunity of personal hearing granted nor examination of any witnesses done. No proper procedure has been followed and no findings of any enquiry provided to the appellant and as such the appellant has been condemned unheard. The appeal is admitted for regular hearing subject to all just legal objections. The appellant is directed to deposit security and process fee within 10 days. Thereafter, notices be issued to the respondents for submission of written reply/comments in office within 10 days after receipt of notices, positively. If the written reply/comments are not submitted within the stipulated time, or extension of time is not sought through written application with sufficient cause, the office shall submit the file with a report of non-compliance. File to come up for arguments on 10.01.2022 before the D.B at camp court Abbottabad.

Appellant Deposited
Security & Process Fee

(Mian Muhammad)
Member(E)

10.01.2022. Due to cancellation of bus, the case is adjourned to 19/01.2022.



Reader.

Form- A

FORM OF ORDER SHEET

Court of _____

Case No.- 7393 /2021

S.No.	Date of order proceedings	Order or other proceedings with signature of judge
1	2	3
1-	10/09/2021	<p>The appeal of Mr. Faisal Ali Shah presented today by Mr. Muhammad Aslam Tanoli Advocate may be entered in the Institution Register and put up to the Worthy Chairman for proper order please.</p> <p style="text-align: right;"> REGISTRAR</p>
2-		<p>This case is entrusted to S. Bench for at Peshawar. Notice be issued to appellant/counsel for preliminary hearing to be put up there on <u>01/11/21</u>.</p> <p style="text-align: right;"> CHAIRMAN</p>

**BEFORE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR
CHECK LIST**

Case Title: Faisal Ali Shah vs KPK PO/198 & Others

S.#	Contents	Yes	No
1.	This appeal has been presented by: <u>Mohammed Aslam Tardli Advocate</u>		
2.	Whether Counsel / Appellant / Respondent / Deponent have signed the requisite documents?	✓	
3.	Whether Appeal is within time?	✓	
4.	Whether the enactment under which the appeal is filed mentioned?	✓	
5.	Whether the enactment under which the appeal is filed is correct?	✓	
6.	Whether affidavit is appended?	✓	
7.	Whether affidavit is duly attested by competent oath commissioner?	✓	
8.	Whether appeal/annexures are properly paged?	✓	
9.	Whether certificate regarding filing any earlier appeal on the subject, furnished?	✓	
10.	Whether annexures are legible?	✓	
11.	Whether annexures are attested?	✓	
12.	Whether copies of annexures are readable/clear?	✓	
13.	Whether copy of appeal is delivered to A.G/D.A.G?	✓	
14.	Whether Power of Attorney of the Counsel engaged is attested and signed by petitioner/appellant/respondents?	✓	
15.	Whether numbers of referred cases given are correct?	✓	
16.	Whether appeal contains cuttings/overwriting?		✓
17.	Whether list of books has been provided at the end of the appeal?	✓	
18.	Whether case relate to this Court?	✓	
19.	Whether requisite number of spare copies attached?	✓	
20.	Whether complete spare copy is filed in separate file cover?	✓	
21.	Whether addresses of parties given are complete?	✓	
22.	Whether index filed?	✓	
23.	Whether index is correct?	✓	
24.	Whether Security and Process Fee deposited? on		
25.	Whether in view of Khyber Pakhtunkhwa Service Tribunal Rules 1974 Rule 11, notice along with copy of appeal and annexures has been sent to respondents? on		
26.	Whether copies of comments/reply/rejoinder submitted? on		
27.	Whether copies of comments/reply/rejoinder provided to opposite party? on		

It is certified that formalities/documentation as required in the above table have been fulfilled.

Name: Mohammad Aslam Tardli
 Signature: M. Aslam (Advocate)
 Dated: 09-09-2021

**BEFORE HONOURABLE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE
TRIBUNAL PESHAWAR**

Appeal No.....

Faisal Ali Shah (Ex-Sub Inspector Police Abbottabad) R/O
Village Changi Bandi, Tehsil & District Haripur. **(Appellant)**

VERSUS

1. Provincial Police Officer, Khyber Paktunkhwa, Peshawar.
2. Regional Police Officer, Hazara Region, Abbottabad.
3. District Police Officer, Abbottabad **(Respondents)**

SERVICE APPEAL

INDEX

S/No	Description of Document	Ann- exure	Page No.
1.	Appeal.		01-08
2.	Charge Sheets & its reply	"A&B"	09-11
3.	Final Show Cause Notice & Its reply.	"C&D"	12-14
4.	Impugned Order dated 10-06-2021 of DPO	"E"	15-17
5.	Departure & Arrival report and FIR No.139	"F,G & H"	16-17 18
6.	Departmental Appeal dated 21-06-2021	"I"	19-22
7.	Appeal Rejection Order dated 12-08-2021.	"J"	23
9.	Wakalatnama		

Through

Appellant

(Mohammad Aslam Tanoli)
Advocate High Court
at Haripur

Dated: 10-09-2021

**BEFORE HONOURABLE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE
TRIBUNAL PESHAWAR**

Khyber Pakhtunkhwa
Service Tribunal

Appeal No.....7393/21

Diary No. 7539

Dated 10/9/2021

Faisal Ali Shah (Ex-Sub Inspector Police Abbottabad) R/O
Village Changi Bandi, Tehsil & District Haripur. **(Appellant)**

VERSUS

1. Provincial Police Officer, Khyber Paktunkhwa, Peshawar.
2. Regional Police Officer, Hazara Region, Abbottabad.
3. District Police Officer, Abbottabad **(Respondents)**

**SERVICE APPEAL UNDER SECTION-4 OF KPK SERVICE TRIBUNAL
ACT 1974 AGAINST ORDER DATED 10-06-2021 OF THE DISTRICT
POLICE OFFICER ABBOTTABAD WHEREBY THE APPELLANT HAS
BEEN "DISMISSED FROM SERVICE" AND ORDER DATED 12-08-
2021 OF THE REGIONAL POLICE OFFICER HAZARA REGION
ABBOTTABAD WHEREBY APPELLANT'S DEPARTMENTAL APPEAL
HAS BEEN FILED.**

**PRAYER: ON ACCEPTANCE OF INSTANT SERVICE APPEAL BOTH
THE IMPUGNED ORDERS DATED 10-06-2021 AND 12-08-2021 OF
THE RESPONDENTS MAY GRACIOUSLY BE SET ASIDE AND
APPELLANT BE RE-INSTATED IN SERVICE FROM THE DATE OF
DISMISSAL WITH ALL CONSEQUENTIAL SERVICE BACK BENEFITS.**

I

Respectfully Sheweth:

1. That appellant while posted as SHO Police Station Nawansher (Abbottabad) was served upon with a charge sheet dated 02-04-2021 by the District Police Officer Abbottabad which was replied on 12-04-2021 explaining all facts and circumstances of the matter and the allegations were denied. **(Copies charge sheet and its reply are attached as Annex-"A & B").**

Filed to-day

Registrar

10/09/2021

2

2. That similarly thereafter the District Police Officer Abbottabad issued a final show cause notice dated 04-06-2021 with the same allegations which was also replied on 08-06-2021. The allegations were denied vehemently. **(Copies of final show cause notice and its reply are attached as Annex-"C & D")**.

3. That proper departmental enquiry was not conducted. No witness was called by the so-called inquiry officer in the presence of appellant nor was he afforded to cross examine such a witness, if any. Neither documentary evidence was produced against the appellant before the enquiry officer nor was he confronted with such documentary evidence. Copy of enquiry findings, if any, was also not issued to the appellant before serving final show cause notice. Even opportunity of personal hearing was not provided to appellant and he was condemned unheard thus principle of natural justice was seriously violated in his case.

4. That the District Police Officer Abbottabad without giving any consideration to the stance taken by appellant in his reply dismissed him from service vide order dated 10-06-2021 in a whimsical and cursory manner and that too without any reason, justification and proof. **(Copy of dismissal order dated 10-06-2021 is attached as Annex-"E")**.

4. That in fact on 07-03-2021 at 18:55 hours, the appellant alongwith police party set-out from Police Station Nawansher on routine patrolling duty. When appellant

3

alongwith police party present at Kund-Barrier-Road he noticed that a person on seeing police started trying to slip away. Being suspected one he was arrested and his body was searched. During search a 30 bore pistol alongwith 10 live cortèges was recovered for which he could not produced any license/permit etc. On query he disclosed his name as Hazrat Gul S/O Bahadar Gul R/O Kotkay Sokari Bannu. Murasila etc were prepared on the spot and sent to the Police Station through Constable Majid Ali No. 351 for registration of FIR. An FIR No.139 dated 07-03-2021 U/S-15AA was registered against the accused. Accused was confined in the Police Station's Lock-up. After having completed necessary proceedings the accused was produced before the Judicial Magistrate from where he was sent to jail on judicial remand. **(Copies of Departure, Arrival reports and FIR are attached as Annex- "F, G & H")**.

5. That appellant had no knowledge that accused was also charged in a case u/s-302/34 dated 07-03-2021 at Bannu District. Appellant did that which actually happened. Appellant did not know the accused, and had no previous relation or enmity etc with accused. It is totally incorrect that during preliminary inquiry planning of registration of bogus case or obtaining any illegal gratification/bribe was ever proved against appellant. Nothing wrong on the part of appellant was proved. Allegations are quite baseless, false, fabricated and based on malafide having no nexus with truth.

4

6. That anove mentioned impugned order of the DPO Abbottabad was appealed against on 21-06-2021 before the Regional Police Officer, Hazara Region, Abbottabad which was **filed** vide order dated 04-08-2021 and that too without giving any heed to the grounds taken by appellant in the memo of appeal. **(Copies of departmental Appeal dated 21-06-2021 and order 12-08-2021 are attached as Annex-"I & J")**, hence instant service appeal, inter alia, on the following amongst other:-

GROUND:

- A) That orders dated 10-06-2021 and 12-08-2021 of respondents are illegal, unlawful, against the departmental rules & regulation, issued in a cursory, whimsical and arbitrary manner; hence are liable to be set aside.
- B) That proper departmental enquiry was not conducted. No witness was called by the so-called inquiry officer in presence of appellant nor was he afforded to cross examine such a witness. Neither documentary evidence was produced against the appellant nor was he confronted with such documentary evidence, if any. Copy of enquiry findings, if any, was also not issued to the appellant before serving final show cause notice. Even opportunity of personal hearing was not provided to appellant and he was condemned unheard thus principle of natural justice was seriously violated in his case.

3

- C) That appellant had no knowledge that accused was also charged in a case u/s-302/34 dated 07-03-2021 at Bannu District. Appellant did only that which had actually happened and discharged his duty honestly. Appellant did not know the accused, and had no previous relation or enmity etc with accused. It is totally incorrect that during preliminary inquiry planning of registration of bogus case or obtaining any illegal gratification/bribe was ever proved against appellant. Nothing wrong on the part of appellant was proved. Allegations are quite baseless, false, fabricated and based on malafide having no nexus with truth.
- D) That the appellate authority has also failed to abide by the law and even did not take into consideration the grounds taken in the memo of appeal. Thus the impugned order of appellate authority is contrary to the law as laid down in Police Rules read with section 24-A of General Clause Act 1897 and Article 10A of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973.
- F) That instant service appeal is well within time and this honorable Service Tribunal has got every jurisdiction to entertain & adjudicate upon the lis.

PRAYER:


It is, therefore, humbly prayed that on acceptance of instant Service appeal order dated 10-06-2021 and 12-08-2021 of respondents may graciously be set aside and the appellant be

6

reinstated in his service from the date of dismissal with all consequential service back benefits. Any other relief which this Honorable Tribunal deems fit and proper in circumstances of the case may also be granted.


Appellant

Through:


(Mohammad Aslam Tanoli)
Advocate High Court
At Haripur

Dated 10-09-2021

VERIFICATION

It is verified that the contents of instant Service Appeal are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed thereof.

Dated 10-09-2021


Appellant

7

BEFORE HONOURABLE KHYBER PAKHTUNKHWA
SERVICE TRIBUNAL PESHAWAR

Faisal Ali Shah (Ex-Sub Inspector Police Abbottabad) R/O
Village Changi Bandi, Tehsil & District Haripur. **(Appellant)**

VERSUS

1. Provincial Police Officer, Khyber Paktunkhwa, Peshawar.
2. Regional Police Officer, Hazara Region, Abbottabad.
3. District Police Officer, Abbottabad **(Respondents)**

SERVICE APPEAL

CERTIFICATE

It is certified that no such Appeal on the subject has ever been filed in this Honorable Service Tribunal or any other court prior to instant one.


APPELLANT

Dated: 10-09-2021

8

**BEFORE HONOURABLE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE
TRIBUNAL PESHAWAR**

Faisal Ali Shah (Ex-Sub Inspector Police Abbottabad) R/O
Village Changi Bandi, Tehsil & District Haripur. **(Appellant)**

VERSUS

1. Provincial Police Officer, Khyber Paktunkhwa, Peshawar.
2. Regional Police Officer, Hazara Region, Abbottabad.
3. District Police Officer, Abbottabad **(Respondents)**

SERVICE APPEAL


AFFIDAVIT:

I, Faisal Ali Shah, appellant do hereby solemnly declare and affirm on oath that the contents of the instant Service Appeal are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been suppressed from this Honorable Service Tribunal.


Deponent/Appellant

Dated: 10-09-2021

Identified By:



Mohammad Aslam Tanoli
Advocate High Court
At Haripur




Appellant

9
DISCIPLINARY ACTION

Annex - A

I, **Zahoor Babar Afridi (PSP)** District Police Officer **Abbottabad** as Competent Authority of the opinion that you **SI Faisal Ali Shah SHO PS Nawansher** rendered yourself liable to be proceeded against as you committed the following act/omission within the meaning of Police Disciplinary Rules 1975 (amended 2014):


STATEMENT OF THE ALLEGATIONS


I. As per preliminary enquiry conducted by Addl: SP Abbottabad vide his office memo: No. 1317/PA dated 01-04-2021, you SI Faisal Ali Shah while posted as SHO at PS Nawansher, on 07-03-2021 at 19:35 hrs you have registered a fake/bogus case vide FIR No. 139 dated 07-03-2021 u/s 15AA PS Nawansher while on the same day at 17:15 hrs the same accused namely Hazrat Gul s/o Bahadar Gul r/o Kotkah Sokari Bannu was also charged in murder case vide FIR No. 178 dated 07-03-2021 u/s 302/324/34 PPC PS Cantt district Bannu, how is it possible that the accused is charged in two FIRs at the same time and date in two very faraway districts. During preliminary enquiry the allegations of preplanning in registering bogus case and obtaining of illegal gratification/ bribe has been proved. All this shows your ill-will in performance of official duties. Your this act is a sever violation, a senior professional dishonesty and gross misconduct in term of police E&D Rules- 1975, hence charge sheeted.

2). For the purpose of scrutinizing your conduct with reference to the above allegations, SP, Inv: AH is hereby appointed as Enquiry officer.

3). The Enquiry Officer shall in accordance with the provision of this ordinance, provide reasonable opportunity of hearing to you, record finding and make within 25 days of the receipt of this order, recommendation as to punishment or the appropriate action against you.

4). You are hereby directed to attend the proceedings on the due date, time and place fixed by the Enquiry Officer.


(Zahoor Babar Afridi) PSP
District Police Officer
Abbottabad

Accepted

Addl: SP
Superintendent of
Police Abbottabad

/PA, Dated Abbottabad the 02/04/2021.

Copy to:

Enquiry Officer for initiating proceedings against the defaulter officer under provisions of the Police Disciplinary Rules 1975 (amended 2014) and submit findings within stipulated period.

2. **SI Faisal Ali Shah SHO PS Nawansher** (delinquent officer/ official).

لوہر
2/4/21

جناب ایس پی صاحب اوسٹی ٹینشن ایبٹ آباد (انٹرویو آفیسر)

عنون :- حور بابت چارج شیٹ نمبر PA/127/127 مورخہ 02/04/2021

حور علی - گذریشہ - چارج شیٹ نمبر بالا واپس لی گئی۔ حور
حور میں حسب ذیل معلومات دی گئی۔

1- میری مورخہ 21-03-07 کو من مہلام عمر 04 پولیس پارٹی (وقت 18:55 بجے)
تھانہ ٹوان شہر سے روانہ ہو کر معمول کی گشت مرقا - حدود علاقہ تھانہ
کی گشت کرتے ہوئے گندہ بیرٹر اردو پیر وجود تھا۔ کہ اس دوران اس
شخص پولیس پارٹی کو دیکھ کر ادھر ادھر ہونے لگی اور گشت کرنے لگا۔
اسے بڑھا شوار سے اس علاقہ قابو کیا۔ دوران تگڑی
پٹرول پمپ پر کئی لائسنس یافتہ یا لائسنس نہ کر سکا۔ مذکورہ
شخص دریافت کیا کہ اس کا نام حضرت گل ولد بادر گل سکھ کوٹ کے سکریٹری
بندھا ہے جسے صاحبہ نے فریاد کر کے پولیس کو اطلاع دیا۔
ماہر علی نے 351 روانہ تھانہ کیا گیا۔ کبھی علم کا دعویٰ حسب مہلام
کو اگلی صبح پیش لکھوات گیا گیا۔ جہاں سے اسے علاقہ جیل کھمبار۔

Attested
Addl. Superintendent of Police Abbottabad

2- میری الزام عائد کردہ چارج شیٹ غلط ہے بنیاد اور منی سرپرستی ذاتی عبادت
فریاد کردہ اطلاعات کا نتیجہ ہے۔ صورت دیگر ان میں اتنی کچھ بھی حقیقت ہے۔
جہاں تگڑی مہلام مذکورہ کا ایک دور دراز علاقہ ہے تھانہ بنوں میں مورخہ 24/04/2021
میں ملوث ہونے کا تعلق ہے۔ من مہلام کو اس بابت کوئی علم نہ ہے۔ جن مہلام
نے تو اسے اپنی لہرو تھانہ میں مورخہ 15/04/2021 میں ملوث کر لیا تھا۔ اور
FIR درج کی۔ اس بات کا صحیح کوئی علم نہ ہے۔ کہیں کوئی علم تھانہ
جات میں وہ اس وقت پر لکھوات گیا تاریخ کو بطور مہلام حور ہے۔

ATTESTED
Superintendent of Police Investigation, Abbottabad

حفاظت میں گرفتاری دہشت یا غلط ہے۔ اس بار کو معلوم ہے۔ البتہ تمام قوانین اور ایسٹ آباد میں ان کی گرفتاری، FBR وقت اور تاریخ دہشت اور حقیقت 2/2 میں ہے۔

3۔ میرا علم خیر و برا کیا ہے میں خیرم کا کوئی تعلق جان لیوا یا دشمنی نہیں ہے۔ اسے خیرم 157AA کا رٹنگ یا باطبر گرفتار دینا بند کر دیا گیا ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ دوران اللہ کی اندواری میں خیرم کی اندازہ مقدمہ میں کوئی Preplanning یا رشوت وغیرہ کنٹریبٹ ہے۔ انہوں نے خیرم کی اندازہ میں کوئی Preplanning ہے۔ اور نہ رشوت کا کوئی سوال پیدا ہوا۔ میں خیرم کو گرفتار کرنے سے متبادا اطلاع ذاتی عباد کی بنا پر ہی گئی ہے۔ کہ میں خیرم کو گرفتار نہ لے سکا لیکن اپنی عبادت کے طور پر ان باتوں کا حقیقت سے دور کا واسطہ ہے۔ میں نے خیرم کو گرفتار نہیں کیا ہے۔

4۔ میرا علم خیرم نے اپنے فرائض منصبی بہتر طریقے سے سرانجام دیے ہیں جن میں کسی قسم کی Dishonesty یا کوئی نہ ہے۔ نہ ہی فرائض کی کوئی Dishonesty یا Dishonesty ہے۔ بلکہ ایمانداری سے اپنی ذمہ داری سرانجام دی۔ رشوتی اور والسی اور ناجیہ جات کا نفوت کو فرائض میں شامل نہیں ہے۔

5۔ کہ میں خیرم کو گرفتار کرنے کے کاغذوں میں غلطی ہو سکتی ہے۔ تو مجھے حتمی سیشن کے طور پر اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنا چاہیے۔

Attested
Addl. Superintendent of Police Abbottabad

ذرا جو اب کو ذرا حفرہ سے ملنے والا ہے۔ البتہ عہدہ مندرجہ بالا حتمی کی کوئی بھی عبادت نہیں ہے۔

ATTESTED
Superintendent of Investigation, Abbottabad

12/04/2021

SI فیصل علی شاہ حال پولیس سٹیشن ایسٹ آباد

(12)

Annex - C

OFFICE OF THE DISTRICT POLICE OFFICER, ABBOTTABAD

No: 210/PA, Dated Abbottabad, the 04/06/2021.


FINAL SHOW CAUSE NOTICE

(Unit Rule (3) KPK Police Rules, 1975 amended 2014)

1. That you **SI Faisal Ali Shah** rendered yourself liable to be proceeded under Rule 5 (3) of the Khyber Pakhtunkhwa Police Rules 1975 (amended 2014) for following misconduct;
 - I. As per preliminary enquiry conducted by Addl: SP Abbottabad vide his office memo: No. 1317/PA dated 01-04-2021, you SI Faisal Ali Shah while posted as SHO at PS Nawansher, on 07-03-2021 at 19:35 hrs you have registered a fake/ bogus case vide FIR No. 139 dated 07-03-2021 u/s 15AA PS Nawansher while on the same day at 17:15 hrs the same accused namely Hazrat Gul s/o Bahadar Gul r/o Kotkah Sokari Bannu was also charged in murder case vide FIR No. 178 dated 07-03-2021 u/s 302/324/34 PPC PS Cantt district Bannu, how is it possible that the accused is charged in two FIRs at the same time and date in two very faraway districts. During preliminary enquiry the allegations of preplanning in registering bogus case and obtaining of illegal gratification/ bribe has been proved. All this shows your ill-will in performance of official duties. Your this act is a sever violation, a senior professional dishonesty and gross misconduct in term of police E&D Rules- 1975:-
 - II. During proper departmental enquiry the allegations have been proved against you.
2. That by reason of above, as sufficient material is placed before the undersigned therefore it is decided to proceed against you in general Police proceedings without aid of enquiry officer;
3. That the misconduct on your part is prejudicial to good order of discipline in the Police force.
4. That your retention in the police force will amount to encouragement of inefficient Police officers;
5. That by taking cognizance of the matter under enquiry, the undersigned as competent authority under the said rules, proposes stern action against you by awarding one or more of the kind punishments as provided in the Rules.
6. You are, therefore, called upon to Final Show Cause as to why you should not be dealt strictly in accordance with the Khyber Pakhtunkhwa Police Rules, 1975(amended 2014) for the misconduct referred to above.
7. You should submit reply to this Final Show Cause Notice within 07 days of the receipt of the notice failing which an ex parte action shall be taken against you.
8. You are further directed to inform the undersigned that you wish to be heard in person or not.
9. Grounds of action are also enclosed with this notice.

Alleged

Addl.
Superintendent of
Police Abbottabad


District Police Officer
Abbottabad

Received by _____

Dated ___/___/2021

محترم صاحب D.P.O صاحب ضلع ایبٹ آباد

جناب عالی

گزارش ہے کہ فائل شوکار پولیس بڑی 211/PA مورخہ 21.06.04 کو وصول ہوا۔ جس کے جواب میں حسب ذیل معروض قدرت ہوں۔

(1) یہ کہ مورخہ 21/06/04 کو من ملازم ہمراہ پولیس یارٹی بوقت 8:30 بجے تقانہ ٹھکانہ سے روانہ ہو کر معمول کی گشت پر تھا۔ حدود علاقہ تقانہ کی گشت کرتے ہوئے کنڈیٹر ٹرورڈ پر موجود تھا کہ اسی دوران ایک شخص پولیس یارٹی کو دیکھ کر پیس و پیش ہونے لگا۔ پولیس یارٹی کے ہمراہ قابو کر کے جامع تلامذہ کی دوران اُسٹے بڑھا شوار سے ایک عدد بسول 30 بھروسہ اعداد کارٹوس برآمد ہوئے مذکورہ دریافت پر ایسا نام حضرت گل ولد بہادر گل سکھ کوٹکے سوکری نور بتلایا۔ جسے حسب ضابطہ گرفتار کر کے مراسلہ بغرض قاضی مقدمہ تقانہ بھجوا دیا۔ فیصلہ کرنے جملہ کاروائی پولیس حسب ضابطہ ملزم کو اگلی صبح پیش عدالت کیا گیا جہاں سے اُسے عدالت نے جیل بھیج دیا۔

(2) یہ کہ عائد کردہ الزامات غلط، بے بنیاد، بدینی اور ذاتی عناد کے تحت فراہم کردہ اطلاعات کا نتیجہ ہیں۔ بصورت دیگر ان میں کوئی بھی حقیقت نہ ہے۔ مذکورہ ملزم ضلع بنوں سے کسی تقانہ میں جرم 302/34 P.P.C میں ملوث ہونے کے بارے میں من ملازم کو علم نہ ہے۔ من ملازم نے تو اسے اپنی حدود تقانہ میں جرم AA-15 میں ملوث یا گرفتار کیا اور FIR درج کی۔ اس بات کا مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ ہر دو علیحدہ علیحدہ تقانہ جات میں وہ ایک ہی وقت پر اور ایک ہی تاریخ کو بطور ملزم درج ہے۔ تقانہ بنوں میں گرفتاری درست مانگنا ہے۔ اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ البتہ تقانہ ٹوان شہر ایبٹ آباد میں رستہ گرفتاری FIR وقت اور تاریخ درست اور حقیقت پر مبنی ہے۔

(3) یہ کہ ملزم مذکورہ کیساتھ من ملازم کا کوئی تعلق جان پہچان یا دشمنی نہیں ہے۔ اسے جرم AA-15 کا مرتکب پایا جا کر گرفتار و یا بند سلاسل کیا گیا ہے۔ یہ بات غلط ہے کیونکہ دوران انلوائری من ملازم کی اندراج مقدمہ میں کوئی رستہ وغیرہ لیبا ثابت ہوا ہے نہ تو من ملازم کی اندراج مقدمہ میں کوئی برہانہ ہے۔ من ملازم کے خلاف غلط اور بے بنیاد اطلاع ذاتی عناد کی بنا پر دی گئی ہے کہ من ملازم کی سروس کو نقصان پہنچا جاوے۔

Attested

Addl. Superintendent of Police Abbottabad.

P.T-0

(4) میرنگہ من ملازم نے اپنے ذرائع منہی بہترین طریقے سے سرانجام دیے ہیں جن میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہے اور نہ ہی ذرائع کی انجام دہی میں غفلت بھرتی ہے۔ بقدر امکان دارگی سے روٹی کی سرانجام دیا ہے۔

وہی یہ کہ من ملازم کو اگر سزے جاتے کا موقع دیا گیا تو عمدہ حقائق پیش کیے جا کر اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرونگا۔

اسد کا ہیکہ مندرجہ بالا حقائق کی روشنی میں فائنل شوکار نوٹی مع جواب کو افضل دفتر سے جاتے کی سفارش کی جاوے۔

الرفوعا ۵۸/۲۱

[Handwritten Signature]

الذی فیصل علی شاہ حال پولیس لائن ایٹ ابار

Accepted
Addl. Superintendent of Police Abbottabad

15

Annex E

ORDER

This office order will dispose off the departmental enquiry against **SI Faisal Ali Shah**. As per preliminary enquiry conducted by Addl: SP Abbottabad vide his office memo: No. 1317/PA dated 01-04-2021, he while posted as SHO at PS Nawansher, on 07-03-2021 at 19:35 hrs he has registered a fake/ bogus case vide FIR No. 139 dated 07-03-2021 u/s 15AA PS Nawansher while on the same day at 17:15 hrs the same accused namely Hazrat Gul s/o Bahadar Gul r/o Kotkah Sokari Bannu was also charged in murder case vide FIR No. 178 dated 07-03-2021 u/s 302/324/34 PPC PS Cantt district Bannu, how is it possible that the accused is charged in two FIRs at the same time and date in two very faraway districts. During preliminary enquiry the allegations of preplanning in registering bogus case and obtaining of illegal gratification/ bribe has been proved. All this shows his ill-will in performance of official duties. His this act is a sever violation, a senior professional dishonesty and gross misconduct in term of police E&D Rules- 1975.

He was issued with Charge Sheet along with statement of allegations. **SP Investigation Abbottabad** was appointed as Enquiry Officer. He conducted proper departmental enquiry against the delinquent officer and recorded statements of all concerned. After conducting proper departmental enquiry, the Enquiry Officer submitted his findings wherein he reported that the allegations level against delinquent officer are proved correct. He was issued with Final Show Notice. He was summoned to appear in Orderly Room on 09-06-2021. He was given a patient hearing but he had nothing plausible to state in his defence.

Therefore, in exercise of the powers vested in the undersigned Police Disciplinary Rules-1975 (Amended 2014), I, Zahoor Babar Afridi, PSP, District Police Officer, Abbottabad as a competent authority, am constrained to award him the punishment of **Dismissal form Service** with immediate effect.

~~Attested~~
Addl. Superintendent of Police Abbottabad

Order announced.

OB No. 184
Dated: 10-6-21

~~Zahoor Babar Afridi~~
District Police Officer
7 Abbottabad

CC.

1. Pay Officer DPO Office.
2. SRC DPO Office alongwith Enquiry containing 132 pages for completion of record.

فصل ایس ایف ایف

فٹائلز ان سٹیو

Amar-F

16

نقل سٹیشن 33 روزانہ 07/03/021

33
روانگلی فصل سٹیشن SHD 07/03/021 وقت 18:55 بجے اس وقت میں ہے
سٹیشن سٹیشن IHC - فصل سٹیشن 740 - سٹیشن 1132 - جائیداد 351 کی
درست باوردی باغیچہ بعض کھیت دیگر کارسٹار روانہ حدود
فٹائلز کا بیروٹا ہوں۔

اجناس عالی
نقل سٹیشن 33
MM-PS-NSR
07-03-021

38
آفس سٹیشن سٹیشن ASI 07/03/021 وقت 20:40 بجے اس وقت
فٹائلز سٹیشن سٹیشن SHD سٹیشن 351 سٹیشن سٹیشن
فٹائلز 139 سٹیشن ASI کی جائیداد سٹیشن سٹیشن

اجناس عالی
نقل سٹیشن 38
MM-PS-NSR
07-03-021

39
فٹائلز سٹیشن ASI 07/03/021 وقت 20:50 بجے اس وقت سٹیشن سٹیشن
فٹائلز سٹیشن سٹیشن سٹیشن سٹیشن سٹیشن سٹیشن
فٹائلز سٹیشن سٹیشن سٹیشن سٹیشن سٹیشن سٹیشن

اجناس عالی
نقل سٹیشن 39
MM-PS-NSR
07-03-021

A Hested
[Signature]

ضلع ایمپریٹ آباد

(17)

Annex - G

ماتر نوٹس

نقل رپورٹ 27 روزنامہ 08/03/21

47
 1
 ISAA
 01
 01
 کارٹوس
 10

08/03/21 SHO سہیل
 وقت 00:10 بجے اس وقت میں سے بعد اسیان
 کے وقت بخیر وقت بلا بعد از فریڈ گیسٹ دیگر کارٹوس کارٹوس
 گھانٹہ سے وہاں آئے ہوں۔ گھانٹہ سے روانہ ہو کر سری روڈ۔ وہ کالونیات
 وغیرہ PMA کے ڈھانڈے والی روڈ وغیرہ میں گیسٹ کی گئی۔ دوران گیسٹ
 کئی پیرسٹرو روڈ پر موجود تھا کہ ان کے ساتھ ساتھ میں ملائی
 ہوئے جس کو گاڑی میں کرنا شکی کی بنا پر جانے والا تھا حسب ضابطہ عمل
 میں لائی۔ دوران ملائی مذکورہ کے بعد شکار سے ایک ضربہ نکل
 30 لیور گیری - 276 2906 سے 10 ضربہ کارٹوس کے پیرسٹرو
 ہوا۔ دریافت پر مذکورہ سے اپنا نام حضرت علی ولد سادو گل قسوم
 پستون سکتے کو ملک سوری بیٹوں بتلایا۔ اللہ ایجنٹس نے پوسٹ فریڈ
 قبضہ لیور گیری مذکورہ کو سرنگب جبر بالاکا یا کر حسب ضابطہ عمل
 کرکے سرسٹریٹ انڈرائز، قسوم ارسال کیا۔ لاہور بعد جلائی
 باڈار چو کھار ان کو چیک کیا گیا کہ یہ ایسا ضابطہ ہو گیا ہے۔ دیگر ضربہ
 گزری۔ بعد اسیان سے اسٹریٹ ایجنٹس دست طور پر داخل کرتے ہوئے آیا گیا۔

ضابطہ عالی

نقل بطریق اصل
 08-03-21

Attested
 [Signature]

CPASD Form 133/26-2012/2013 Form 524

قلم نمبر (1)

پولیس نمبر

ابتدائی اطلاعی رپورٹ

ابتدائی اطلاع نسبت جرم قابل دست اندازی ایسٹ رپورٹ شدہ زیر دفعہ 154 مجموعہ ضابطہ نو جداری

بل

دعا نمبر	139
تاریخ وقوع و وقت	03/07/2021 وقت 20:40
مقام وقوع	جائیدگی ایچ 20335872260
تاریخ و وقت رپورٹ	21/07/2021 وقت 19:40
نام و کنیت اطلاع دہندہ	مستغیت فیصل شاہ 5115 گھانم خان
مختصر کیفیت جرم (محدود حال اگر کچھ لکھا گیا ہو)	DRAB KPIK سڑک پر واقعہ
مقام وقوع واقعات اور اطلاع دہندہ کی پتہ	15/11 کو محلہ ایچ 20335872260
نام و کنیت جرم کرنے والے شخص	مستغیت فیصل شاہ 5115 گھانم خان
کارروائی پر تفتیش کے حوالے کی گئی اگر اطلاع دہندہ کرنے میں توقف ہو تو بیان کردہ	جسید علی و امجد علی صاحب
تفتیش کے حوالے کی تاریخ و وقت	21/07/2021

ابتدائی اطلاع کے درج کردہ تمام واقعات ذیل کے اندر درج ہیں۔
 اطلاع دہندہ نے 21/07/2021 کو 20:40 بجے اپنے گھر پر واقعہ 15/11 کو محلہ ایچ 20335872260 کے سامنے ایک گاڑی کو روک کر اس کے مالدار سے اس کی گاڑی کے بارے میں پوچھا۔
 گاڑی کے مالدار نے اسے بتایا کہ یہ گاڑی ایک شخص کے پاس ہے جس کا نام مستغیت فیصل شاہ ہے۔
 اطلاع دہندہ نے اس شخص سے اس کی گاڑی کے بارے میں پوچھا اور اس نے اسے بتایا کہ یہ گاڑی ایک شخص کے پاس ہے جس کا نام مستغیت فیصل شاہ ہے۔
 اطلاع دہندہ نے اس شخص سے اس کی گاڑی کے بارے میں پوچھا اور اس نے اسے بتایا کہ یہ گاڑی ایک شخص کے پاس ہے جس کا نام مستغیت فیصل شاہ ہے۔
 اطلاع دہندہ نے اس شخص سے اس کی گاڑی کے بارے میں پوچھا اور اس نے اسے بتایا کہ یہ گاڑی ایک شخص کے پاس ہے جس کا نام مستغیت فیصل شاہ ہے۔

7/02/21
7-3-2021

Attested
[Signature]

(14)

Annex-9

BEFORE HONOURABLE REGIONAL POLICE OFFICER
HAZARA REGION ABBOTTABAD.

DEPARTMENTAL APPEAL AGAINST ORDER OB NO. 184 DATED 10-06-2021 OF THE DISTRICT POLICE OFFICER ABBOTTABAD WHEREBY APPELLANT HAS BEEN DISMISSED FROM SERVICE".

PRAYER: ON ACCEPTANCE OF INSTANT DEPARTMENTAL APPEAL ORDER DATED 10-06-2021 OF THE DPO ABBOTTABAD MAY KINDLY BE SET ASIDE AND APPELLANT BE RE-INSTATED IN SERVICE FROM THE DATE OF DISMISSED WITH ALL CONSEQUENTIAL SERVICE BACK BENEFITS.

Respected Sir,

The following few lines are submitted for your kind consideration and favorable order please:-

1. That appellant while posted as SHO Police Station Nawansher (Abbottabad) was served upon with a charge sheet No. 127/PA dated 02-04-2021 by the District Police Officer Abbottabad which was replied explaining all facts and circumstances of the matter and the allegations included therein were straightaway denied. **(Copies charge sheet and its of reply are attached as "B")**.
2. That similarly the District Police Officer Abbottabad issued a final show cause notice dated 04-06-2021 with the same allegations as previously to the appellant which was also replied on 08-06-2021. The allegations were once again denied. **(Copies of final show cause notice and its reply are attached as "C & D")**.

Attested
[Signature]

20

3. That no proper departmental enquiry was conducted. No witness was called by the so-called inquiry officer in the presence of appellant nor was he afforded to cross examine such a witness if any. Neither documentary evidence produced before the enquiry officer nor was appellant confronted with such an evidence, if any. Copy of enquiry findings, if any, was also not issued to the appellant before serving final show cause notice. Even opportunity of personal hearing was not provided to appellant and condemned unheard thus principle of natural justice was seriously violated in the case of appellant.
4. That thereafter the District Police Officer Abbottabad without giving any consideration to the stance taken by appellant in his reply as referred above, without any reason, justification, proof and in a whimsical and cursory manner awarded the appellant with major penalty of dismissal from service vide order dated 10-06-2021. **(Copy of dismissal order dated 10-06-2021 is attached as "E")**.
5. That in fact on 07-03-2021 at 18:55 hours, the appellant alongwith police party set out from Police Station Nawansher on routine patrolling duty. When appellant alongwith police party present at Kund-Barrier- Road he noticed that a person on seeing police party started trying to slip away. Being suspected one was arrested

Arrested
[Signature]

and his body was searched. During search a 30 bore pistol alongwith 10 live cortèges recovered for which he could not produced any license/permit etc. He disclosed his name as Hazrat Gul S/O Bahadar Gul R/O Kotkay Sokari Bannu. Murasila etc were prepared on the spot and sent it to the Police Station through Constable Majid Ali No. 351 for registration of FIR. An FIR No.139 dated 07-03-2021 U/S-15AA was registered against the accused. Accused was confined in Lock-up. After having completed necessary proceedings the accused was produced before the Judicial Magistrate from where he was sent to jail on judicial remand. **(Copies of Departure, Arrival and FIR are attached as "F. G & H").**

- 6. That appellant had no knowledge that accused was also charged in a case u/s-392/34 dated 07-03-2021 at Bannu District. Appellant did only that actually happened. Appellant did not know the accused, and had no previous relation or enmity etc with accused. It is totally incorrect that during preliminary inquiry planning of registration of bogus case or obtaining any illegal gratification/bribe was ever proved against him. Nothing wrong on the part of appellant was proved. Allegations are quite baseless, false, fabricated and based on malafide having no nexus with truth.

- 7. That appellant has discharged his assigned duties with zeal, zest, devotion, dedication and honesty. There is

Attested
[Signature]

nothing wrong on his part. The extreme major punishment of dismissal from service awarded to the appellant is wrong, against the facts, whimsical and cursory in manner, illegally and without lawful authority hence liable to be set aside.

- 8. That appellant has rendered more than 18 years service and always performed his duties with devotion, dedication and honesty and never provided a chance of reprimand having good service record at his credit.
- 9. That if the appellant is afforded with the opportunity of personal hearing she will really prove herself as innocent by adducing credible facts of the matter.


It is, therefore, requested that order dated 10-06-2021 of the District Police Officer Abbottabad may graciously be set aside and the appellant be re-instated in his service from the date of dismissal with all consequential service back benefits. The appellant shall pray for your long life and good health.


(Faisal Ali Shah)
Ex-Sub Inspector

ADDRESS:

Village: Changi Bandi,
Tehsil & District Haripur
Cell No. 0333-5072260

Dated: 21-06-2021


Attested



23

Annex-J

OFFICE OF THE REGIONAL POLICE OFFICER
HAZARA REGION, ABBOTTABAD

0992-9310021-22

0992-9310023

✉ r.rpohazara@gmail.com

☎ 0345-9560687

NO: 18556 /PA DATED 12/08/2021


ORDER

This order will dispose-off departmental appeal under Rule 11-A of Khyber Pakhtunkhwa Police Rules, 1975 submitted by Ex-SI Faisal Ali Shah No.273/H of District Abbottabad against the order of punishment i.e. *Dismissal from service* awarded by DPO Abbottabad vide OB No.184 dated 10.06.2021.

Brief facts leading to the punishment are that the appellant while posted as SHO PS Nawansher, registered a fake/bogus case vide FIR No.139 dated 07.03.2021 u/s 15AA PS Nawansher while on the same day the same accused namely Hazrat Gul s/o Bahadar Gul r/o Kotkha Sokari Bannu was also charged in murder case vide FIR No.178 dated 07.03.2021 u/s 302/324/34 PPC PS Cantt district Bannu, how is it possible that the accused was charged in two FIRs at the same time and date in two very faraway districts. During preliminary enquiry the allegation of preplanning in registering bogus case and obtaining of illegal gratification/bribe were proved.

The appellant was issued charge sheet along with summary of allegations and SP Investigation, Abbottabad was deputed to conduct formal departmental enquiry. The EO after enquiry proceedings held him responsible of misconduct and recommended for major punishment. He was issued final show cause notice and heard in person by the competent authority; however he failed to advance any cogent reason in his defense. Consequently, DPO Abbottabad awarded him major punishment of dismissal from service. Hence, the appellant submitted this present appeal.


After receiving his appeal, comments of DPO Abbottabad were sought and examined/perused. The undersigned called the appellant in OR and heard him in person. However, he could not bring forward any evidence or plausible justification in his defense. Perusal of his track record shows his undisciplined attitude during his service while in the instant case allegations of misconduct are proved beyond reasonable doubt. Thus, the disciplinary action taken by the competent authority seems genuine and appeal liable to be dismissed. Therefore, in exercise of the powers conferred upon the undersigned under Rule 11-4 (a) of Khyber Pakhtunkhwa Police Rules, 1975 the instant appeal is hereby *filed* with immediate effect.


Mirvais Niaz (PSP)

REGIONAL POLICE OFFICER
HAZARA REGION, ABBOTTABAD

No. 18557 /PA, dated Abbottabad the 12/08 /2021.
CC.

1. DPO Abbottabad for information and necessary action with reference to his office Memo No 1645/Legal dated 12-07-2021. Service Roll and Fuji Missal containing enquiry file of the appellant is returned herewith for record.



وکالت نامہ

قیمتی

کورٹ فیس

بعدالت جناب **محمد حسین صاحب خیر بخشین کو** اور **سرکار سٹیٹ بینک** اور

منجانب **امداد علی شاہ** **فصل علی شاہ**

دعویٰ یا جرم **سرکار سٹیٹ بینک** باعث تحریر آنکہ **اسٹ**

مندرجہ بالا عنوان میں اپنی طرف سے پیروی و جواہدی مقام **اسٹ آباد / سٹیٹ**

محمد حسین صاحب ایڈووکیٹ بدیں شرط وکیل مقرر کیا۔ کہ میں ہر پیشی پر خود یا بذریعہ مختار خاص روبرو عدالت

حاضر ہونا ہوں گا۔ اور بوقت پکارے جانے وکیل صاحب موصوف کو اطلاع دے کر حاضر کروں گا۔ اگر کسی پیشی پر منظر

حاضر نہ ہوں اور حاضری کی وجہ سے کسی وجہ پر مقدمہ میرے خلاف ہو گیا تو صاحب موصوف اس کے کسی طرح ذمہ دار نہ

ہوں گے۔ نیز وکیل صاحب موصوف صدر مقام کچہری کے علاوہ کسی اور جگہ یا کچہری کے مقرر اوقات سے پہلے یا بروز

تعطیل پیروی کرنے کے مجاز نہ ہوں گے۔ اگر مقدمہ مقام کچہری کے کسی اور جگہ سماعت ہونے پر یا بروز کچہری کے اوقات

کے آگیا یا چھپے ہونے پر منظر کو کوئی نقصان پہنچے تو ذمہ دار یا اس کے رابطے کسی معاوضہ ادا کرنے مختار نامہ واپس کرنے کے

بھی صاحب موصوف ذمہ دار نہ ہوں گے۔ مجھے کل ساختہ پر داختہ صاحب مثل کردہ ذات خود منظور و قبول ہوگا اور صاحب

موصوف کو عرضی دعویٰ اور درخواست اجراءے ڈگری و نظر ثانی اپیل نگرانی دابر کرنے نیز ہر قسم کی درخواست پر دستخط تصدیق

کرنے کا بھی اختیار ہوگا۔ اور کسی حکم یا ڈگری کے اجرا کرنے اور ہر قسم کاروبار وصول کرنے اور رسید دینے اور داخل کرنے

کا ہر قسم کا بیان دینے اور سپروٹاشی و راضی نامہ و فیصلہ برخلاف کرنے اقبال دعویٰ کا اختیار ہوگا۔ اور بصورت اپیل و

برآمدگی مقدمہ یا منسوخی ڈگری یکطرفہ درخواست حکم امتناعی یا ڈگری قبل از فیصلہ اجراءے ڈگری بھی صاحب موصوف کو

بشرط ادا ہوگی علیحدہ پیروی مختار نامہ کر نیکا مجاز ہوگا۔ اور بصورت ضرورت اپیل یا اپیل کے واسطے کسی دوسرے وکیل یا پیرسٹر

کو بجائے اپنے ہمراہ مقرر کریں اور ایسے مشیر قانونی کو بھی اس امر میں وہی اختیارات حاصل ہوں گے جیسے صاحب

موصوف کو۔ پوری فیس تاریخ پیشی سے پہلے ادا نہ کروں گا۔ تو صاحب موصوف کو پورا اختیار ہوگا کہ مقدمہ کی پیروی نہ

کریں اور ایسی حالت میں میرا مطالبہ صاحب موصوف کے برخلاف نہیں ہوگا۔ لہذا مختار نامہ لکھ دیا ہے کہ سند رہے مضمون

Accepted for
M. Aslam

مختار نامہ سن لیا ہے اور اچھی طرح سمجھ لیا اور منظور ہے۔

2021-09-10

مورخہ:

(Signature)

اللہ اعلم بالصواب

**BEFORE THE HONORABLE KHYBER PAKHTUNKHWA, SERVICE
TRIBUNAL PESHAWAR CAMP COURT, ABBOTTABAD.**

SERVICE APPEAL No. 7393/2021.

Faisal Ali Shah (Ex-Sub-Inspector Police, Abbottabad) R/O Village Changi Bandi
Tehsil & District Haripur.

.....Appellant.

VERSUS

1. Provincial Police Officer, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
2. Regional Police Officer, Hazara Region, Abbottabad.
3. District Police Officer, Abbottabad.

.....Respondents.

Para wise comments on behalf of Respondents.

INDEX.

S.No.	Detail of Documents	Annexure	Page No.
1	Reply	-	1 to 3
2	Affidavit	-	4
3	Charge sheet, statement of allegations.	"A&A-1"	5 & 6
4	Order No. 184 Dated 10.06.2021	"B"	7
5	Order No. 18556/ PA dated 12.08.2021	"C"	8
TOTAL			8 Pages



DSP Legal, Abbottabad.

①

**BEFORE THE HONORABLE KHYBER PAKHTUNKHWA, SERVICE
TRIBUNAL PESHAWAR CAMP COURT, ABBOTTABAD**

SERVICE APPEAL No. 7393/2021

Faisal Ali Shah (Ex-Sub-Inspector Police, Abbottabad) R/O Village Changi Bandi
Tehsil & District Haripur.

.....Appellant.

VERSUS

1. Provincial Police Officer, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
2. Regional Police Officer, Hazara Region, Abbottabad.
3. District Police Officer, Abbottabad.

.....Respondents.

Para-wise comments by respondents.

Respectfully Sheweth.

PRELIMINARY OBJECTIONS:-

1. That the instant Service Appeal is not maintainable in the present form.
2. That the appellant is estopped by his own conduct to file the instant appeal.
3. That the appellant has not come to the Hon'ble Tribunal with clean hands.
4. That the appellant has suppressed material facts from the Hon'ble Tribunal.
5. That the instant Service Appeal is not maintainable for non-joinder/miss-joinder of necessary and proper parties.
6. That the instant Service Appeal is barred by law and limitation.

ON FACTS:-

1. In reply to this para it is submitted that the appellant while posted as SHO Police Station, Nawanshehr registered a fake case vide FIR No. 139 dated 07.03.2021 u/s 155 AA KPK, PS Nawanshehr and charged the accused namely Hazrat Gul s/o Bahadar Gul r/o Kotkah Sokari, Bannu who was also charged in case FIR No. 178 dated 07.03.2021 u/s 302/324/34 PPC, PS Cantt, District Bannu. Therefore, the appellant was issued charge sheet and statement of allegations vide District Police Officer, Abbottabad office No. 1207/PA Dated 02.04.2021. (Copies of charge sheet and statement of allegations are attached as Annexure "A & A-1").
2. In reply to this para, it is submitted that the appellant could not give satisfactory reply in response to the charge sheet.

3. In reply to this para, it is submitted that proper departmental enquiry was conducted. The appellant joined the enquiry proceedings and all legal requirements were fulfilled during the course of inquiry.
4. Incorrect, respondent No. 03 took into consideration all facts, circumstances and relevant evidence which proved the misconduct of the appellant. Consequently, the appellant was awarded major punishment of dismissal from Service vide OB No. 184 dated 10.06.2021. (Copy of order is attached as Annexure "B").
5. In reply to this para, it is submitted that the appellant registered a case against the accused who was already charged in a heinous case vide FR No. 178 dated 07.03.2021 u/s 302/324/34 PPC, PS Cantt, District Bannu. The matter was probed through enquiry proceedings in which the appellant was held guilty of misconduct.
6. In reply to this para, it is submitted that the registration of case against the accused of heinous offence at District Abbottabad was dishonesty on the part of appellant. Therefore, upon charges of misconduct, appellant was awarded the major punishment of dismissal from Service as per law/rules.
7. Incorrect, the appellant filed departmental appeal against the order of punishment to the respondent No. 02, who considered the same and dismissed vide order No. 18556/PA dated 12.08.2021. (Copy of order is attached as the annexure "C").


ON GROUNDS:-


- a. Incorrect, both the orders are legal and in accordance with law/rules hence, liable to be remained intact.
- b. Incorrect, proper departmental inquiry was conducted by the respondents. The appellant joined the enquiry proceedings. He was given the right of personal hearing and self-defense. Having fulfilled all legal requirements the appellant was awarded the major punishment of dismissal from Service.
- c. Incorrect, the appellant registered a fake case against the accused in this district. Therefore, the matter was thoroughly probed and appellant was held guilty of gross misconduct.


- d. In reply to this para, it is submitted that the appellate authority took into consideration all facts, circumstances and relevant evidence, while rejecting the departmental appeal of the appellant. Therefore, the order of punishment is lawful and maintainable.
- f. Incorrect, the instant service appeal is badly time barred and not maintainable under the law.

PRAYER.

In view of above, it is most humbly prayed that the instant service appeal does not hold any legal force which may graciously be dismissed with costs please.


Provincial Police Officer,
Khyber Pakhtunkhwa,
Peshawar.
(Respondent No.1)


Regional Police Officer,
Hazara Region, Abbottabad
(Respondent No.2)


District Police Officer,
Abbottabad.
(Respondent No. 3)

BEFORE THE HONORABLE KHYBER PAKHTUNKHWA, SERVICE TRIBUNAL PESHAWAR CAMP COURT, ABBOTTABAD.

SERVICE APPEAL No. 7393/2021

Faisal Ali Shah (Ex-Sub-Inspector Police, Abbottabad) R/O Village Changi Bandi Tehsil & District Haripur.

.....Appellant.

VERSUS


1. Provincial Police Officer, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
2. Regional Police Officer, Hazara Region, Abbottabad.
3. District Police Officer, Abbottabad.

.....Respondents.

AFFIDAVIT.

We, do hereby affirm on oath that the contents of written reply are true to the best of our knowledge & belief and nothing has been concealed from the honorable Service Tribunal.

Submitted please.




[Signature]
 Provincial Police Officer,
 Khyber Pakhtunkhwa,
 Peshawar.
 (Respondent No.1)

[Signature]
 Regional Police Officer,
 Hazara Region, Abbottabad
 (Respondent No.2)

[Signature]
 District Police Officer,
 Abbottabad.
 (Respondent No. 3)

CHARGE SHEET

- 1). I, **Zahoor Babar Afridi (PSP) District Police Officer Abbottabad** as competent authority hereby charge you SI Faisal Ali Shah SHO PS Nawansher as explained in the attached statement of allegations.
- 2). You appear to be guilty of misconduct under Police Disciplinary Rules 1975 (amended 2014) and have rendered yourself liable to all or any of the penalties specified in the said Police Disciplinary Rules.
- 3). You are therefore, directed to submit your written defense within seven days on the receipt of this Charge Sheet to the Enquiry Officer.
- 4). Your written defense, if any shall reach the Enquiry Officer within the specified period, failing which it shall be presumed that you have no defense to put in and in that case ex-parte action shall follow against you.
- 5). Intimate whether you desire to be heard in person or otherwise.
- 6). A statement of allegations is enclosed.



(Zahoor Babar Afridi) PSP
District Police Officer
Abbottabad

6- A-1
DISCIPLINARY ACTION

I, Zahoor Babar Afridi (PSP) District Police Officer Abbottabad as Competent Authority of the opinion that you SI Faisal Ali Shah SHO PS Nawansher rendered yourself liable to be proceeded against as you committed the following act/omission within the meaning of Police Disciplinary Rules 1975 (amended 2014):


STATEMENT OF THE ALLEGATIONS

1. As per preliminary enquiry conducted by Addl: SP Abbottabad vide his office memo: No. 1317/PA dated 01-04-2021, you SI Faisal Ali Shah while posted as SHO at PS Nawansher, on 07-03-2021 at 19:35 hrs you have registered a fake/ bogus case vide FIR No. 139 dated 07-03-2021 u/s 15AA PS Nawansher while on the same day at 17:15 hrs the same accused namely Hazrat Gul s/o Bahadar Gul r/o Kotkah Sokari Bannu was also charged in murder case vide FIR No. 137 dated 07-03-2021 u/s 302/324/34 PPC PS Cantt district Bannu, how is it possible that the accused is charged in two FIRs at the same time and date in two very faraway districts. During preliminary enquiry the allegations of preplanning in registering bogus case and obtaining of illegal gratification/ bribe has been proved. All this shows your ill-will in performance of official duties. Your this act is a sever violation, a senior professional dishonesty and gross misconduct in term of police E&D Rules- 1975, hence charge sheeted.

2). For the purpose of scrutinizing your conduct with reference to the above allegations, SP Inv: AH is hereby appointed as Enquiry officer.

3). The Enquiry Officer shall in accordance with the provision of this ordinance, provide reasonable opportunity of hearing to you, record finding and make within 25 days of the receipt of this order, recommendation as to punishment or the appropriate action against you.

4). You are hereby directed to attend the proceedings on the due date, time and place fixed by the Enquiry Officer.


(Zahoor Babar Afridi) PSP
District Police Officer
Abbottabad

No: 127 /PA, Dated Abbottabad the 02/04/2021.

Copy to:

1. Enquiry Officer for initiating proceedings against the defaulter officer under provisions of the Police Disciplinary Rules 1975 (amended 2014) and submit findings within stipulated period.
2. SI Faisal Ali Shah SHO PS Nawansher (delinquent officer/ official).

- 12 -

7" Annexure "B"

E

ORDER


This office order will dispose off the departmental enquiry against **SI Faisal Ali Shah**. As per preliminary enquiry conducted by Addl: SP Abbottabad vide his office memo: No. 1317/PA dated 01-04-2021, he while posted as SHO at PS Nawansher, on 07-03-2021 at 19:35 hrs he has registered a fake/ bogus case vide FIR No. 139 dated 07-03-2021 u/s 15AA PS Nawansher while on the same day at 17:15 hrs the same accused namely Hazrat Gul s/o Bahadar Gul r/o Kotkah Sokari Bannu was also charged in murder case vide FIR No. 178 dated 07-03-2021 u/s 302/324/34 PPC PS Cantt district Bannu, how is it possible that the accused is charged in two FIRs at the same time and date in two very faraway districts. During preliminary enquiry the allegations of preplanning in registering bogus case and obtaining of illegal gratification/ bribe has been proved. All this shows his ill-will in performance of official duties. His this act is a sever violation, a senior professional dishonesty and gross misconduct in term of police E&D Rules- 1975.

He was issued with Charge Sheet along with statement of allegations. **SP Investigation Abbottabad** was appointed as Enquiry Officer. He conducted proper departmental enquiry against the delinquent officer and recorded statements of all concerned. After conducting proper departmental enquiry, the Enquiry Officer submitted his findings wherein he reported that the allegations level against delinquent officer are proved correct. He was issued with Final Show Notice. He was summoned to appear in Orderly Room on 09-06-2021. He was given a patient hearing but he had nothing plausible to state in his defence.

Therefore, in exercise of the powers vested in the undersigned Police Disciplinary Rules-1975 (Amended 2014), I, Zahoor Babar Afridi, PSP, District Police Officer, Abbottabad as a competent authority, am constrained to award him the punishment of Dismissal form Service with immediate effect.

Order announced.

OB No. 184
Dated 10-6-21


District Police Officer
Abbottabad

CC.

1. Pay Officer DPO Office.
2. SRC DPO Office alongwith Enquiry containing 132 pages for completion of record.



OFFICE OF THE REGIONAL POLICE OFFICER
HAZARA REGION, ABBOTTABAD

0992-9310021-22

0992-9310023

r.rpohazara@gmail.com

0345-9560687

NO: 18556 /PA DATED 12/08/2021

ORDER

This order will dispose-off departmental appeal under Rule 11-A of Khyber Pakhtunkhwa Police Rules, 1975 submitted by Ex-SI Faisal Ali Shah No.273/H of District Abbottabad against the order of punishment i.e. *Dismissal from service* awarded by DPO Abbottabad vide OB No.184 dated 10.06.2021.

Brief facts leading to the punishment are that the appellant while posted as SHO PS Nawansher, registered a fake/bogus case vide FIR No.139 dated 07.03.2021 u/s 15AA PS Nawansher while on the same day the same accused namely Hazrat Gul s/o Bahadar Gul r/o Kotkha Sokari Bannu was also charged in murder case vide FIR No.178 dated 07.03.2021 u/s 302/324/34 PPC PS Cantt district Bannu, how is it possible that the accused was charged in two FIRs at the same time and date in two very faraway districts. During preliminary enquiry the allegation of preplanning in registering bogus case and obtaining of illegal gratification/bribe were proved.

The appellant was issued charge sheet along with summary of allegations and SP Investigation, Abbottabad was deputed to conduct formal departmental enquiry. The EO after enquiry proceedings held him responsible of misconduct and recommended for major punishment. He was issued final show cause notice and heard in person by the competent authority; however he failed to advance any cogent reason in his defense. Consequently, DPO Abbottabad awarded him major punishment of dismissal from service. Hence, the appellant submitted this present appeal.

After receiving his appeal, comments of DPO Abbottabad were sought and examined/perused. The undersigned called the appellant in OR and heard him in person. However, he could not bring forward any evidence or plausible justification in his defense. Perusal of his track record shows his undisciplined attitude during his service while in the instant case allegations of misconduct are proved beyond reasonable doubt. Thus, the disciplinary action taken by the competent authority seems genuine and appeal liable to be dismissed. Therefore, in exercise of the powers conferred upon the undersigned under Rule 11-4 (a) of Khyber Pakhtunkhwa Police Rules, 1975 the instant appeal is hereby *filed* with immediate effect.

Mirvais Niaz (PSP)

REGIONAL POLICE OFFICER
HAZARA REGION, ABBOTTABAD

No. 18557 /PA, dated Abbottabad the 12/08 /2021.
CC.

1. DPO Abbottabad for information and necessary action with reference to his office Memo No 1645/Legal dated 12-07-2021. Service Roll and Fuji Missal containing enquiry file of the appellant is returned herewith for record.

DEPARTMENTAL ENQUIRY AGAINST SI FAISAL THE THEN SHO PS
NAWANSHER PRESENTLY POSTED IN POLICE LINES DISTRICT
ABBOTTABAD.

ALLEGATIONS:-

Vide charge sheet & summary of allegations No: 127/PA dated 02-04-2021 issued by your good office for the purpose of scrutinizing the conduct of SI Faisal Ali Shah with the allegations that "while he was posted as SHO PS Nawansher, on 07-03-2021 at 1935 hours he has registered a fake / bogus case vide FIR No. 139 dated: 07-03-2021 u/s 15-AA / KPK PS Nawansher. While on the same day at 1715 hours the same accused namely Hazrat Gul s/o Bahadur Gul r/o Kotkah Sokari Banu was also charged in murder case vide FIR No. 178 dated: 07-03-2021 u/s 302/324/34 PPC PS Cantt District Banu, how is it possible that the accused is charged in two FIRs at the same time and date in two very far away districts. During preliminary enquiry the allegation of pre-planning in registering bogus case and obtaining a illegal gratification / bribe has been proved, which tantamount to gross misconduct". The undersigned was appointed as enquiry officer.

PROCEEDINGS:-

After the receipt of enquiry papers the record was thoroughly examined and the delinquent officer was called upon / summoned, heard in person, ample opportunity was given to him and a session of cross question was also made. The statements of the following were recorded which are placed on file.

1. HC Waseem Ayub MHC PS Nawansher.
2. LHC Nadeem Qadir MM PS Nawansher.
3. HC Muhammad Niaz AMHC PS Nawansher.
4. Constable Nazar Muhammad No. 183 Control Room Police Lines.
5. Constable Zeeshan No. 740 GD PS Nawansher.
6. Constable Sheraz No. 1132 GD PS Nawansher.

1. STATEMENT OF DELINQUENT OFFICER SI FAISAL ALI SHAH

The delinquent officer stated in his statement that on 7-03-2021 at 1855 hours he along with police party was present on routine patrolling near Kund barrier road, meanwhile on seeing police party a person tried to decamp from the spot. Being suspect police party arrest him and during his body search recovered one 30-bore pistol along with 10 cartridges from his possession. He failed to produce any legal documents of the said pistol.

(2)

On query he disclosed his name as Hazrat Gul s/o Bahdur Gul r/o Kotkah Sokari Banu, upon which the above cited case was registered against him. He further stated that the allegations leveled against him are based on personnel enmity, fake and baseless. So far as the involvement of said accused in any other district is concerned he was unaware about the matter and he arrested him from the jurisdiction of PS Nawansher. He did not know as to whether the arrest of above named accused in district Bañnu is correct or not. Moreover, he stated that he have no relation or personally known to him prior the incident. It is not true that the registration of case u/s 15-AA / KPK is pre-planned or he took any bribe / gratification from the accused during preliminary enquiry. He has honestly performed his duties and has made no violation / dishonesty. He further prayed to file the charge Sheet.

2. STATEMENT OF HC WASEEM AYUB MHC PS NAWANSHER

He stated in his statement that on 07-03-2021 due to an emergency he went to his home on the permission of SHO. When he returned back a case vide FIR No. 139 dated: 07-03-2021 u/s 15-AA / KPK PS Nawansher was already registered. He did not know any information about the incident.

3. STATEMENT OF LHC NADEEM QADIR MM PS NAWANSHER.

He stated in his statement that on 07-03-221 he along with additional Moharrar HC Muhammad Niaz was present in the Moharrar office. SHO ordered him to keep pending the Roznamcha as he has to registered an FIR. On the order of SHO he kept the Roznamcha pending. On 08-03-2021 at about 4:30am or 05:0am while he was sleeping SHO gave him a Marasla and directed to chalked the confinement of involved accused and also register the FIR. He brought into the notice of SHO that Control Room does not write daily progress after 12 O'clock. On this SHO personally informed the control room through his mobile phone that he has to register an FIR u/s 15-AA and asked him to add the said case in morning report. Operator Gulfam posted at Control Room informed the SHO that operator Nazar Shah has been slept, he will brought into his notice and he will add the said case in the morning. On the order of SHO he has chalked the FIR vide No. 139 dated: 07-03-2021 u/s 15-AA / KPK PS Nawansher.

4. STATEMENT OF HC MUHAMMAD NIAZ AMHC PS NAWANSHER

He stated in his statement that on 07-03-2021 while he was present in Moharrar office. At evening time SHO came to Moharrar office and asked him to keep the Roznamcha pending as he has to register an FIR. He remained present in the office of Moharrar office till 12:00am and after conveying

(3)

the whole FIRs of day to Control Room he went to sleep in his room. After him MM LHC Nadeem Qadir was present on duty in Moharrar office. The said case was not registered in his presence.

5. STATEMENT OF CONSTABLE NAZAR MUHAMMAD NO. 183 CONTROL ROOM POLICE LINES.

He stated in his statement that on 07-03-2021 while he was receiving the information regarding registration of cases in different police station of District Abbottabad. At about 11:30 pm additional Moharrar PS Nawansher conveyed him the details of cases from FIR No. 135 to 138. On 08-03-2021 at 07:30am LHC Nadeem Qadir MM PS Nawansher conveyed the details of FIR No. 139 dated: 08-3-2021 u/s 15-AA /KPK PS Nawasher.

6. STATEMENT OF CONSTABLE ZEESHAN NO. 740 GD PS NAWANSHER.

He stated in his statement that on the day of occurrence he was present at Ghari Phana Chowk Nawansher on routine patrolling along with SHO PS Nawansher, IHC Shahzad Shah, FC Majid and FC Sheraz No. 1332. In the meanwhile he received a mobile call from his brother that his father was ill and his brother brought him to hospital. He brought the said information into the notice of SHO and after obtaining permission proceeded towards the hospital.

7. STATEMENT OF CONSTABLE SHERAZ NO. 1132 GD PS NAWANSHER.

He stated in his statement that at the day of occurrence he was present at Ghari Phana Chowk Nawansher on routine patrolling along with SHO PS Nawansher, IHC Shahzad Shah, FC Majid No. 351 and FC Zeeshan No. 740. Due to an emergency after obtaining permission from SHO he went to his home.

OBSERVATIONS

During the course of enquiry the undersigned has observed the following facts: -


1. During cross question session the witness of the "Fard" Constable Sheraz No. 1132 stated that his name was included in the "Fard" but neither he was present on the spot nor he has signed on the "Fard".
2. The witnesses of the "Fard" did not verify their presence in the Marasla.

- (4)
3. CDR of all the relevant person was collected in previous preliminary enquiry which revealed that Constable Majid, Gunner SHO Faisal Shah reached to the Kokhar Maira Interchange as indicated in the CDR, which clearly indicates that he received the accused in protocol under the direction of SHO from Kokhar Maira Interchange (out of jurisdiction of PS Nawansher). Similarly, several suspect numbers are also found in the CDR of SHO Faisal Shah and his gunner.
 4. Similarly, During the proceeding of previous preliminary enquiry in cross questioning IHC Shahzad Shah confessed that he has visited to Kokhar Maira Interchange at the day of occurrence on 08-03-2021 which is also found suspicious and proves that IHC Shahzad Shah and Constable Majid (Gunner) received accused from Muslimabad Interchange.
 5. As the accused Hazrat Gul s/o Bahadur Gul belongs to a far away district Bannu and his sudden arrival in District Abbottabad is also a question mark
 6. The arrest point of the accused was showed in FIR is Kund Barrier, Thandiani Road which was cross checked with CDR of all Police personnel including SHO, which is not found correct.
 7. The arrival / departure of SHO Faisal Ali Shah in Daily Roznamcha were check and found that although SHO has mentioned about the incident i.e. recovery of Arms & Ammunition etc but he did not mentioned to whom he handed over the recovered arm & ammunition. Similarly, Moharrar was also unaware about the entire episode.
 8. It is also astonishing that initially a person made confined himself in PS lockup u/s 15 AA/KPK, as the said offence is bail able the accused despite of making arrangements for guarantors in respect of his bail, he preferred to go in judicial remand. It is also a question mark.
 9. Statement of LHC Nadeem Qaider No.1267 (Muharrir staff) revealed that SHO told them to keep the Roznamcha pending and after it he was directed to register case on Murasala report on 08-03-2021 at round about 04:00/05:00 Am. Meant by case was not registered at till 08:40 Pm as incorporated in the FIR. This statement also speaks that case was registered on bogus grounds with malafide intentions.
 10. It is also surprising that how two different FIRs are lodged against the same accused on the same date and time in two far away districts.

RECOMMENDATION: -

Keeping in view of above facts & circumstances and as per statements of concerned officials all the allegations leveled against SI Faisal Shah, the then SHO Nawansher are stand proved. As he with the help of his Gunner Constable Majid and IHC Shahzad Shah are directly found guilty in pre-planning the matter with accused Hazrat Gul, who was charged in Murder case in FIR No.178 dated 07-03-2021 u/s 302/324/34 PPC PS Cantt District Bannu and the accused Hazrat Gul s/o Bahadur Gul tried to established alibi with the help of SHO, his gunner and IHC in registering bogus case vide FIR No.139 u/s 15AA dated 07-03-2021 PS Nawansher by some unknown means in order to damage the Murder case registered in District Bannu. Hence as per the statements of the officials, CDR analysis, record of the police station and cancellation of the case proved him guilty. Therefore, keeping in view of above SI Faisal Ali Shah (delinquent Officer) is hereby recommended for **Major Punishment** for creating embracement for the Department for some ulterior motives.

Submitted please.



(MUHAMMAD ISHTIAQ)
Superintendent of Police,
Investigation, Abbottabad.

PA
Issue
ESLN
DPO Atd

6

CHARGE SHEET

- 1). I, **Zahoor Babar Afridi (PSP) District Police Officer Abbottabad** as competent authority hereby charge you **SI Faisal Ali Shah SHO PS Nawansher** as explained in the attached statement of allegations.
- 2). You appear to be guilty of misconduct under Police Disciplinary Rules 1975 (amended 2014) and have rendered yourself liable to all or any of the penalties specified in the said Police Disciplinary Rules.
- 3). You are therefore, directed to submit your written defense within seven days on the receipt of this Charge Sheet to the Enquiry Officer.
- 4). Your written defense, if any shall reach the Enquiry Officer within the specified period, failing which it shall be presumed that you have no defense to put in and in that case ex-parte action shall follow against you.
- 5). Intimate whether you desire to be heard in person or otherwise.
- 6). A statement of allegations is enclosed.



(~~Zahoor Babar Afridi~~) PSP
District Police Officer
Abbottabad


⑤

DISCIPLINARY ACTION

I, **Zahoor Babar Afridi (PSP) District Police Officer Abbottabad** as Competent Authority of the opinion that you **SI Faisal Ali Shah SHO PS Nawansher** rendered yourself liable to be proceeded against as you committed the following act/omission within the meaning of Police Disciplinary Rules 1975 (amended 2014):

STATEMENT OF THE ALLEGATIONS

1. As per preliminary enquiry conducted by Addl: SP Abbottabad vide his office memo: No. 1317/PA dated 01-04-2021, you SI Faisal Ali Shah while posted as SHO at PS Nawansher, on 07-03-2021 at 19:35 hrs you have registered a fake/ bogus case vide FIR No. 139 dated 07-03-2021 u/s 15AA PS Nawansher while on the same day at 17:15 hrs the same accused namely Hazrat Gul s/o Bahadar Gul r/o Kotkah Sokari Bannu was also charged in murder case vide FIR No. 178 dated 07-03-2021 u/s 302/324/34 PPC PS Cantt district Bannu, how is it possible that the accused is charged in two FIRs at the same time and date in two very faraway districts. During preliminary enquiry the allegations of preplanning in registering bogus case and obtaining of illegal gratification/ bribe has been proved. All this shows your ill-will in performance of official duties. Your this act is a sever violation, a senior professional dishonesty and gross misconduct in term of police E&D Rules- 1975, hence charge sheeted.
- 2). For the purpose of scrutinizing your conduct with reference to the above allegations, SP Inv: Ad is hereby appointed as Enquiry officer.
- 3). The Enquiry Officer shall in accordance with the provision of this ordinance, provide reasonable opportunity of hearing to you, record finding and make within 25 days of the receipt of this order, recommendation as to punishment or the appropriate action against you.
- 4). You are hereby directed to attend the proceedings on the due date, time and place fixed by the Enquiry Officer.


(Zahoor Babar Afridi) PSP
District Police Officer
Abbottabad

No: 127 /PA, Dated Abbottabad the 02/04/2021.

Copy to:

1. Enquiry Officer for initiating proceedings against the defaulter officer under provisions of the Police Disciplinary Rules 1975 (amended 2014) and submit findings within stipulated period.
2. **SI Faisal Ali Shah SHO PS Nawansher** (delinquent officer/ official).

محترم صاحب الین بی جی ایچ، اٹوٹی ٹینس ایڈریٹ آباد (انٹرویو آفسیئر)

عنوان :- جواب بابت چارج شیٹ نمبر PA/127/127 مورخہ 02/04/2021

گزارش :- کہ چارج شیٹ جو کہ بالذکر واپس نہیں ہوئی۔ جواب میں حسب ذیل تشریحات دی گئی ہیں۔

1- کہ کہ مورخہ 21-03-2021 کو من مہذب محمد اہد پوٹس پارٹی وقت 18:55 بجے تھانہ توڑاں شہر سے روانہ ہو کر معمول کی گشت پر تھا۔ حدود علاقہ تھانہ کی گشت کرتے ہوئے گندہ پیر ٹراڈ پر موجود تھا۔ کہ اس دوران اس شخص پولیس پارٹی کو دیکھ کر ادھر ادھر ہونے لگی اور گشت کرنے لگا۔ اسے بڑھا شکر سے اس پولیس پارٹی کے علم میں آ گیا۔ دوران تلبیسی لیسول بابت وقوع کوئی لائنس یا رپورٹ نام پیش نہ کر سکا۔ مذکورہ شخص دریافت کیا / اس کا نام حضرت محل ولد بہادر محل سکونت کوٹلے سکری بیوں بہادر ہے جسے حسب ضابطہ گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا گیا۔ ماحد علی 351 روانہ تھانہ کیا گیا۔ کہ یہ تھانہ علم کا دعویٰ حسب ضابطہ ملزم کو اعلیٰ کیم پیش لعدالت کیا گیا۔ جہاں سے اسے عدالت میں جیل گھر دیا۔

2- کہ کہ الزما عادل کردہ چارج شیٹ غلط ہے بنیاد اس میں برہنہ ذاتی عبادت فرسہ کردہ اطلاعات کا نتیجہ ہیں۔ لعدوت دیگر ان میں رتی کعبہ ہی حقیقت ہے۔ جہاں ملزم مذکورہ ما ایک دور دراز علاقہ کے تھانہ بیوں میں جمع 20/04/2021 کے تو اسے اپنی لعدوت تھانہ میں کیم 1578A میں ملوث نہ کر سکا گیا۔ اور جات میں وہ ایک ہی وقت پر لعدالت تاریخ کو بطور ملزم جرح ہے۔

ATTESTED
Superintendent of Police
Investigation, Abbottabad

۱۔ کچھ چیزوں میں گرفتاری دہشت یا غلط ہے۔ اس بار کچھ علم نہیں ہے۔ البتہ کچھ تو ان

ایسٹ آباد میں آنے کی گرفتاری، FBR وقت اور تاریخ دہشت اور حقیقت 2/ مہینہ ہے

3۔ کچھ علم نہیں ہے کہ کیا وہ من موزم کا کوئی تعلق جان لیوان یا دشمن نہیں ہے۔ اسے

من موزم ISRAA کا ترجمہ پایا جا رہا ہے، وہاں ہندو لکھا گیا ہے۔ یہ بات غلط ہے

کہ دوران اللہ الی اندواری من موزم کی اندر مقدمہ میں توئی Preplanning

یا رشوت و غیرہ گناہ ثابت ہو چکا ہے۔ انہوں نے من موزم کی اندر مقدمہ میں توئی Preplanning

ہے۔ اور نہ رشوت کا کوئی سوال پیدا ہوا ہے۔ من موزم کو من موزم غلط ہے۔ یہ تباہی اطلاع

ذاتی عمارت کی بنا پر ہی گئی ہے۔ کہ من موزم کو کس کو لے کر لے کر لے کر لے کر لے کر لے کر

کے بعد تیار ان باتوں کا حقیقت سے دور کا واسطہ نہیں ہے۔ اس کی تہ نہ تہ رہ

کئی جاتی ہے۔

4۔ کچھ من موزم نے اپنے فرائض منہ سے لہجے سے لہرائی م دے سے حسن میں

کتنی قسم کی اللہ اللہ یا کوئی نہیں ہے۔ نہیں ہے فرائض کی کوئی Dishonesty

یا Dishonesty ہے۔ بلکہ ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی لہرائی ہے۔

روشنی اور والی رزنا فیم صاحبہ کا نفوت کو فیرا جامع مدد ہے۔

5۔ کچھ من موزم کی گرفتاری کے واقعے کے متعلق جاننا ہے۔ تو مجھے کچھ نہیں ہے

اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنا ہے۔

ATTESTED

Superintendent of Police Investigation, Abbottabad

[Signature]

12/04/2021

SI فیصل علی شاہ حال پولیس سٹیشن ایسٹ آباد

جواب: FIR نمبر 139 رقمی آئی کی کیا پوزیشن تھی؟

XXX
E/10

جواب: تفتیشی رور کنڈ میسرز

جواب: آئی بی ملیم صفحہ 111 کو کہاں سے گرفتار کیا؟

XXX
E/10

جواب: نذر کنڈ میسرز تفتیشی رور سے

جواب: آئی بی ملیم کو گرفتار کیا آئی کی فوڈنگ ملیم کون کون تھے؟

XXX
E/10

جواب: شیخزاد شاہ 111 - نیٹیل ماہر نمبر 351 تھے

جواب: جوہر وقوع آئی بی ایس کون سے گاڑی تھی؟

XXX
E/10

جواب: پرائیویٹ گاڑی تھی - وہاں نیٹیل ماہر زیر اسماں تھے؟

جواب: جوہر وقوع آئی بی ایس کون سے وہاں نیٹیل ماہر - زیر اسماں تھے؟

XXX
E/10

جواب: نوٹوں نمبر 0333-5072260 - نیٹیل ماہر نمبر 0349-1593260

جواب: آئی بی ملیم کا کیا گیا کہ آئی بی ملیم وقوع ملیم مذکورہ کو لے

XXX
E/10

ملیم شیخزاد شاہ 111 - ماہر نیٹیل کو ملیم آباد انٹر چینج پر جانے

کی پرائیویٹ گاڑی سے ہے؟

جواب: صیغہ در علم ہو گا ملیم صفحہ 111 سے کوئی رابطہ و غیرہ تھا نہیں؟

جواب: کوئی رابطہ نہیں ہے آئی بی ملیم صفحہ 111 سے کوئی رابطہ و غیرہ تھا نہیں؟

XXX
E/10

جواب: بالکل صحیح ہیں

جواب: آئی بی ملیم کو گرفتار کیا اس کی صاحب ملیم سے اس سے کون سی اشیاء

XXX
E/10

جواب: 30 نومبر 1973ء کو ملیم لاش 10 حدود کارٹوس زینہ - NIC

جواب: 25 سے 28 نومبر 1973ء کو ملیم کو واپس کر دئے تھے

جواب: سب سے پہلے ملیم کی گرفتاری کی اطلاع کس کو دی؟

XXX
E/10

ATTESTED

Superintendent of Police
Investigation, Abbottabad

جواب: 28 نومبر 1973ء کو ملیم لاش 10 حدود کارٹوس زینہ - NIC

جواب: ملیم مذکورہ صدف ملیم لاش 10 حدود کارٹوس زینہ - NIC

XXX
E/10

XXX
E/O
کیا بوقت گرفتار کرنے کے بائیں جوابیل فرمایا؟
جواب: جوابیل نہیں تھا۔

XXX
E/O
حکیم فقیر کے صدف پر فرزند و خولم 7³/₂₁ کو بوقت 15:05
صحت مند 137178 حجم ³⁰²/₃₂₄ کا عطاء کیت نیون رفریڈ ہوتا ہے اور
اسا روز بوقت 07:35 بجے کیتی کفریٹا جو گنتے بعد فقیر صحت 139
حجم ^{15AA}/_{WDII} کا عطاء نواز شر رفیڈ ہوتا ہے۔ کیا اسکا حاصل کیا گیا ہے؟
نیون سے صحت مند آباد جو گنتے میں کفریٹا ہوتا ہے؟
جواب: صدف فقیر و جسمانی طور پر عطاء پڑا ہے صحت مند گرفتار ہوا۔ نیون سے
ابن آباد۔ 2 ڈھاکہ گنتے میں پتہ مشکل ہے۔

XXX
E/O
آپ نے انعام حکیم آبنے ایک سرچے سمجھے جنہوں نے کت ملرنگ کی
اور ایک عمارت رشوت کے عوض ایک چھوٹی PIR دعا کی ہے یا
جواب: تک سچ ہے 9
یہ بات نامکمل لحاظ حکیم صدف پڑا ISAA لوگس رفریڈ کیا صحت مند
سے کسی قسم کی رشوت نہ ملے۔ سابقہ ابتدائی ریکورڈ میں صدف
صدف کے لئے انعام کو پرو (ثابت) کیا گیا۔ اس کی کیت کے بائیں
جو کسی قسم کی رشوت سے تو اس کو سلفے لیا جائے۔

Faisal Ali Shah (S.I.)

27-04-2021
0333-5072260



ATTESTED

Superintendent of Police
Investigation, Abbottabad

نقل رپٹ 47 روزنامہ 08/03/21

ضلع ایبٹ آباد

47

وائس چیف کلر شاہ SHO 08/03 وقت 10:00 بجے اس وقت میں سے بعد اٹھان
 کے رفتہ جو الٹو 33 بالا بعد از فراغت گشت دیگر کارس کار حدود
 قحانہ سے وائس آٹا ہوں۔ قحانہ سے روانہ ہو کر مری روڈ۔ جہاں کالونیات
 وغیرہ۔ PMA روڈ ٹھنڈیالی روڈ وغیرہ میں گشت کی گئی۔ دوران گشت
 کئی پیر پٹر روڈ پر موجود قحانہ ایک شخص مشینہ حالت میں ملائی
 ہوا۔ جس کو قابو میں کر کے شک کی بناء پر جائے تلاشی حسب ضابطہ عمل
 میں لائی۔ دوران تلاشی مذکورہ کے پڑھنا شلواری سے ایک ضرب پٹیل
 30 پور پٹری - 2764 2906 سے 10 ضرب کارٹوس کے برآمد
 ہوا۔ دریافت ہر مذکورہ سے اپنا نام حضرت گل ولد بہادر گل قوم
 پشتون سکتہ کو حکم سیکری بیٹوں بتلایا۔ اللہ ایچوشن برنس قند
 قبضہ پولیس آفیسر مذکورہ کو سرنگب جہر بالا کا پیکر حسب ضابطہ گرفتار
 کر کے عدالت برنس انڈرائز قحانہ ارسال قحانہ سے بعد از جلد بینک
 بازار چوکیداران کو چیک کیا جائے یا اپنا ضابطہ ہوگی ہیں۔ دیگر حقیقت
 گزری۔ بعد اٹھان سے اسلحہ ایچوشن درست طور پر داخل کرتے روایا کیا۔

ISAA
 01
 01
 کارٹوس
 10

جناب عالی!

نقل بطریق اصل

MM-PS-NBR
08-03-021

ATTESTED


 Superintendent of Police
 Investigation, Abbottabad

۴۷
نقل
نقل

محکمہ اعلیٰ عدالت

فصل فیصلہ

نقل ریل گاڑی 33 روزنامہ 07/03
021

33
روانگی فصل شاہ 540 07/03 وقت 18:55 بجے اس وقت میں نے
سبز ادشاہ 14C کیل ڈیپان 740 سبز ادشاہ 1132 - ماجد 351 کے
دست باوردی باصلہ بغرض ریل گیسٹ دیگر کارسکار روانہ شروع
محکمہ کا یہو نامہ ہوں۔

جناب عالی
نقل عطائی اصل
MAM-PS-NSR
07-03-021

38
آفسر سید محمد سید عرفان علی 07/03 ASI وقت 20:40 بجے اس وقت
محمد سید عرفان علی سید عرفان علی 351 ماجد سید عرفان علی
موجود علی 139 جیم 15AA/NSR کی جاگیدگی شروع کی جاتی ہے۔

جناب عالی
نقل عطائی اصل
MAM-PS-NSR
07-03-021

ATTESTED
Superintendent of Police
Investigation, Abbottabad

39
خانہ سید عرفان علی 07/03 ASI وقت 20:50 بجے اس وقت شروع
سید عرفان علی سید عرفان علی 351 ماجد سید عرفان علی
بغرض تفحص عقب سبز ادشاہ 14C سبز ادشاہ 1132 - ماجد 351 کے
بند سبز ادشاہ کی بعد سے محکمہ کا یہو نامہ ہوں۔

جناب عالی
نقل عطائی اصل
MAM-PS-NSR
07-03-021

بیان و سیم ایف بی 1217 حال مرتبہ قضاة قوالی 140

حرفاً بیان پر نام صرف 03/07 کو موجود گھر لو ایف بی ضابطہ اجازت صاحب 1500 کو موجود گھر لو ایف بی

جب وہاں پر قضاة آنا تو دفتر ملازم 139 صرف 03/07 کو مل گیا 1500 قضاة قوالی

FIR درج ذیل ہے۔ ممبروں نے زبردستی کوئی نام نہیں دیا صرف 03/07 کی قضاة سے مل رہی ہے

جم و شرف اور دیگر قضاة قضاة قوالی کو اجازت ہے۔ (تقریباً بیرون ہال کے تعلق سے ایک)

لازم ہے کہ صرف اور صرف FIR مطابق ریکارڈ روزنامہ کو موجود گھر لو ایف بی سے

ممبروں کو موجود گھر لو ایف بی یا راجہ AMIR قضاة میں موجود تھا۔

Handwritten signature and date: 28.04.2021

ATTESTED
Superintendent of Police
Investigation, Abbottabad

نقل ریٹ 47 فرد روزنامہ 08/03/21

47

والیسا فصل شاہ SIHO 08/03 وقت 00:10 سے اس وقت میں سے نمونہ
 کے رفتہ؟ ٹوال روڈ 33 بالا بعد از فریڈ گشت دیگر کارس کارس
 مکان سے وائس آراہنوں۔ مکان سے روانہ ہو کر سردی روڈ۔ جگہ کا
 وغیرہ۔ PMA روڈ ٹھنڈی پانی روڈ وغیرہ میں گشت کی گئی۔ دوران گشت
 گشت پیر پٹر روڈ پر موجود مکان کے شخص مشتبہ حالت میں ملائی
 ہوا۔ جس کو فالو میں کرنا شک کی بناء پر جائے تلاشی حسب ضابطہ عمل
 میں لائی۔ دوران تلاشی مذکورہ کے بڑے کھانے کے اکھڑب پٹیل
 30 پور پٹری - 4 226 2906 سے 10 ضرب کارٹوس کے پراؤ
 ہوا۔ دریافت پیر مذکورہ سے اپنا نام حضرت گل ولد بہادر گل قوم
 پشور سکے کو حکم سوری بیٹوں بتلایا۔ اللہ ایچوشن برنس فرد
 قبضہ لیا جس کے مذکورہ کو سرنگب جگر بالا کا پاکر حسب ضابطہ گرفتار
 کر کے عدالت پرانے اندازہ صرف ارسال کیا گیا۔ بعد جگہ بینک
 بازار چوکیداران کو چیک کیا جا کر ہدایات ضابطہ ہوئی ہیں۔ دیگر گشت
 گزری۔ بعد اثنیان سے اسلحہ ایچوشن دست طور پر داخل کرنا روایا گیا۔

ISAA
 01
 پٹیل
 01
 کارٹوس
 10

ATTESTED

Superintendent of Police
Investigation, Abbottabad

جناب عالی!

نقل بطریق اصل

MAA-PS-NBP
 08-03-021

نقذاز لئوال سببر (16)

فصل اول

نقل ریل مسدود 33 روزنامہ 07/03/021

روانگی فصل شاہ SHD 07/03/021 وقت 18:55 بجے اس وقت میں سے
سبب از شاہ 111C - کپیل ذیشان 740 - سبب از 1132 - ماجہ 351 کے
درست باوردی با عمل بغرض کرسٹنگت دیگر کارسکار روانہ حدود
نقذاز کا ہو گا ہوں۔

جناب عالی! نقل بطاعتی اصل ہے۔
MM-PS-NSR
07-03-021

38 آفیسر تیب ہرج سبب الرحمن ASI 07/03/021 وقت 20:40 بجے اس وقت
تیب ہرجی و اسلہ سبب فصل شاہ SHD بدست ماجہ 351 و کپیل ہوک
معارف علیہ 139 جیٹر 15AA/4021 کی چاکیہ کی شروع کی جاتی ہے۔

جناب عالی! نقل بطاعتی اصل ہے۔
MM-PS-NSR
07-03-021

ATTESTED
Superintendent of Police
Investigation, Abbottabad

39 خانہ تیب ہرج ASI 07/03/021 وقت 20:50 بجے اس وقت شروع شدہ
تیب ہرجی رفتہ ہوالہ مسدود - بالا کی چاکیہ کی تم ہو کر نقل ہرجی سے مراد
بغرض کرسٹنگت سبب از شاہ 111C ہو گیا جانا ہے۔ اساطیرہ ملزم حضور کل
بندش ملزم کی بعد لپٹا مکرہہ جافعہ ملاشی سبب حوالہ نقذاز کیا جانا ہے۔ جناب عالی! نقل بطاعتی اصل ہے۔

تھانہ نوان شہر

نقل ریپڈ مد 33 روزنامہ 07/03/21

ضلع ایبٹ آباد

مد 33 روزنامہ میڈل شاہ SHO 07/03/21 وقت 18:55 بجے اس وقت میں مع شہزاد شاہ SHC
نیشنل ویشیاں 740، شیراز 1132، مالہر 351 سے درست باوردی باصلاح لوہن
گرتے گشت و دیگر کارسرماد روانہ حدود تھانہ ہوں۔

صناب عالی نقل و مطالبہ اہل مد

MM-PS-NSTR
07-03-21



ATTESTED

[Signature]

Superintendent of Police
Investigation, Abbottabad

ضلع ایبٹ آباد

نقل ریپڈ مد 47 روزنامہ 08/03/21

تھانہ نوان شہر

مد 47 واپسی میڈل شاہ SHO 08/03/21 وقت 00:10 بجے میں مع محمد ایان سے رقتہ محمد الہ
33 بالار بعد فراغت گشت و دیگر کارسرماد حدود تھانہ سے واپس آیا ہوں تھانہ سے
روانہ ہو کر مری روڈ محلہ کالونیات وغیرہ PMA روڈ ٹھنڈیانی روڈ وغیرہ میں گشت
کی گئی دوران گشت لنگر بیر روڈ سرحد تھانہ ایک شخص مشتبہ حالت میں بلائی
ہوا صلوا کالو میں برتے شہ جی بناء چرخہ تھلائی حسب ضابطہ عمل میں لائی۔
10 زندہ کارٹوسے برافز ہوا دریافت پر مذکورہ نے اپنا نام حضرت گل ولد بساد گل قوم
پشتون سلنگ کونڈر سولہی منول تھلایا اسکند ایجوکیشن کے متعلق مذکورہ کوئی راتشنریا
اجازت نامہ پیش نہ کر سکا اسکند ایجوکیشن بروئے فرد تدفیر پولیس برتے مذکورہ کو مرتبہ
حکم بالا کالو حسب ضابطہ گرفتار کر کے مر اسلہ برائے اندراج مقدمہ ارسال تھانہ سے۔ معرہ
محمد بنیک بازار جھولیدران کو جدید لیا جا کر مدایات ضابطہ ہوئی ہیں۔ دیگر صدمت فری
محمد ایان سے اسکند ایجوکیشن درست طور پر داخل کورٹ فرمایا گیا۔

صناب عالی

نقل و مطالبہ اہل مد



بیان ازان گدنیاز 1456 H C قہر

تھانز فرائیڈر AMHC

بیان میں قہر پر عطا کونکر دینا لکھ کر مورخ 03/07/03 کو میں صبح آٹھ بجے سے دفتر میں اور گاڑی سڑک مار میں مصروف تھا شاہ سان تہ جناب SHO سے صبح خود دفتر روزنا چکر میں آکر پھر دیا کہ روزنا چکر پندرہ گن چھوڑو میں FIR دونوں گنا میں رات 12 بجے تھا دفتر میں موجود تھا اور سڑکوں پر وہ ایسی آئی اور جو FIR ہو چکی تھی لکھ کر اپنے گھر میں وردی و تار کر سونگیا اور پھر بعد صبح 08:00 بجے دفتر میں موجود تھا میں نے جملہ کارڈان واقعات سے آگاہ کرنا ہے پھر اور جملہ روزنا چکر کے متعلق پندرہ گن چھوڑو جو گاڑی میں ایسا کوئی واقعہ نہیں نہ آیا پھر ایسی بیان ہے جو کہ درمیان ہے اور صبح تقریباً 08:00 بجے دفتر چکر آیا کہ پندرہ گن چکر FIR کر کے گاڑی میں لے کر دفتر میں لے گیا 139 مورخ 03/07/03 کو میں نے SAAR/KPK کے متعلق پندرہ گن چکر میں گتہ تفتیشی حوالہ شہزاد شاہ IHC میں میرا ہی بیان ہے جو کہ درمیان ہے

M
 Abb
 PS
 NLR
 IHC
 04 - 05 - 021

ATTESTED
 Superintendent of Police
 Investigation, Abbottabad

سوال 19 - کیا وقت FIR میں 139/21 H.C. کے تحت اور نام کیا تھا

جواب - جی ہاں میں نے سوچا ہوا تھا۔

سوال 20 - میں نے پاس کے کمرے کے کمرے اور نام کیا تھا

جواب - جی ہاں میں نے سوچا ہوا تھا

سوال 21 کیا آپ کو SHO صاحب نے علم دیا تھا اور نام کیا تھا

جواب - جی ہاں SHO صاحب نے مجھے خود دفتر اور نام میں آکر کہا
کہ اور نام کیا تھا جو میں نے FIR میں لکھا

سوال 22 - کیا آپ اس کے پاس دفتر کے حوالے سے 139/21 H.C. کے تحت
تھانہ نوشہر کو جاننے کے لیے جا رہے تھے

جواب - جی نہیں میں نہیں جانتا تھا اور نہ ہی جانتا تھا

سوال 23 - اور نام کیا تھا اور نام کیا تھا اور نام کیا تھا

جواب - اور نام کیا تھا

1456 H.C. حیدرآباد



0333-5012176

ATTESTED
Superintendent of Police
Investigation, Abbottabad

NSR
10-05-021

بیان مذکور صادر 1267/2021

(i) فورم 31 کو میں دفتر میں سے تیار کیا گیا ہے جو فورم 31 کے تحت
140 کی ایک قطعہ پر تیار کیا گیا ہے اور اس میں ایک ہی جگہ پر
میں نے ایک قطعہ تیار کیا ہے اور اس میں ایک ہی جگہ پر
(ii) تیار کیا گیا ہے اور اس میں ایک ہی جگہ پر
میں نے ایک قطعہ تیار کیا ہے اور اس میں ایک ہی جگہ پر
(iii) میں نے ایک قطعہ تیار کیا ہے اور اس میں ایک ہی جگہ پر

میں نے ایک قطعہ تیار کیا ہے اور اس میں ایک ہی جگہ پر
میں نے ایک قطعہ تیار کیا ہے اور اس میں ایک ہی جگہ پر
میں نے ایک قطعہ تیار کیا ہے اور اس میں ایک ہی جگہ پر

(iv) میں نے ایک قطعہ تیار کیا ہے اور اس میں ایک ہی جگہ پر
میں نے ایک قطعہ تیار کیا ہے اور اس میں ایک ہی جگہ پر
میں نے ایک قطعہ تیار کیا ہے اور اس میں ایک ہی جگہ پر

(v) میں نے ایک قطعہ تیار کیا ہے اور اس میں ایک ہی جگہ پر
میں نے ایک قطعہ تیار کیا ہے اور اس میں ایک ہی جگہ پر
میں نے ایک قطعہ تیار کیا ہے اور اس میں ایک ہی جگہ پر

(vi) میں نے ایک قطعہ تیار کیا ہے اور اس میں ایک ہی جگہ پر
میں نے ایک قطعہ تیار کیا ہے اور اس میں ایک ہی جگہ پر
میں نے ایک قطعہ تیار کیا ہے اور اس میں ایک ہی جگہ پر

میں نے ایک قطعہ تیار کیا ہے اور اس میں ایک ہی جگہ پر

ATTESTED

Superintendent of Police
Investigation, Abbottabad

Handwritten signature and stamp

04/05/2021

سوال I صد وقت FIR عدل 139 اور سب ڈسپوزیٹ آپ کیا ہے؟
کیا تھا؟

جواب I عدل وقت پر عدل موجود تھا اور ٹائم ٹائپا بھی باغ میں
2/08/2021

سوال II آپ کے پاس حراسہ کون لے کر آیا ہے اور ٹائم کیا تھا؟

جواب II مجھے 340 حراسہ لے کر آیا تھا اس پر FIR لگا کر
اور ٹائم بھی سٹارٹ کیا اور باغ میں تھا

سوال III کیا آپ کو 340 حراسہ لے کر آیا تھا روزانہ سٹینٹ ٹھوس
جواب III عدل سے سٹارٹ کیا تھا اور سٹینٹ ٹھوس

سوال IV کیا آپ اس سے قبل ونگ میں لے کر آیا تھا اور سٹینٹ ٹھوس
جواب IV سٹینٹ ٹھوس میں لے کر آیا تھا اور سٹینٹ ٹھوس

سوال V کیا آپ اس سے قبل ونگ میں لے کر آیا تھا اور سٹینٹ ٹھوس
جواب V سٹینٹ ٹھوس میں لے کر آیا تھا اور سٹینٹ ٹھوس

سوال VI کیا آپ اس سے قبل ونگ میں لے کر آیا تھا اور سٹینٹ ٹھوس
جواب VI سٹینٹ ٹھوس میں لے کر آیا تھا اور سٹینٹ ٹھوس

سوال VII کیا آپ اس سے قبل ونگ میں لے کر آیا تھا اور سٹینٹ ٹھوس
جواب VII سٹینٹ ٹھوس میں لے کر آیا تھا اور سٹینٹ ٹھوس

1267/2021
LHC
0324-7788548
0310-6544466
04/05/21


ATTESTED

Superintendent of Police
Investigation, Abbottabad

بیان لڈال کنیشن ڈیشیاں 740 عقائد عقائد نوال مشیر
 کنیشن ڈیشیاں 740 سلسلہ انکوارڈ بیان ہونڈ بروز
 شہزاد شاہ 940 صاحب 351 شہزاد 1139 کے عقائد جو اور عقائد
 S40 صاحب عقائد نوال مشیر سلسلہ عقائد و دیگر سلسلہ عقائد
 سے روانہ ہوں اسی اثناء میں گھر سے بیٹے چوک سے باہر موجود تھا کہ
 میری خانی موہن بنی میر بھائی کی ماں آئی کہ والد صاحب کی طبیعت خراب ہے
 اور سیکویم فہر علی علیہ عطا کردہ بیان سے کر جا رہے ہیں صبح گھر میں
 نے S40 صاحب کو صورت حال کے بارے میں بتلایا اور اجازت سے
 گھر میں بیان روانہ ہو گیا صبح ایسی بیان ہے جو درج ذیل ہے۔

ATTESTED

 Superintendent of Police
 Investigation, Abbottabad


 کنیشن ڈیشیاں 740 عقائد
 نوال مشیر

XXV پتھر: بد روز جو علم بوقت وقوع آئی کیا لوڑ لیفتن تھی؟
 جواب: بد روز جو علم S40 صاحب کے پیرا انکشاف پر تھا اسی اثناء گھر والے لہائی بیماری
 کی اطلاع بد روز خون بھائی نے ہی جو میں سائل حسب اجازت یا سبیل صلا تھی۔


XXV پتھر: کیا آپ گواہ ضرور ہیں؟
 جواب: جی نہیں

XXV پتھر: کیا آپ کے ضرورے اوپر رہتی تھیں جو در ہیں؟
 جواب: جی نہیں میں گواہ ضروریوں اور نہ ہی صید رہتی تھی۔

XXV پتھر: وقوع کی نسبت آپ کو علم ہے، حضرت گل کے خلاف مقدمہ رجسٹر سوارم میں؟
 جواب: جی نہیں میں موجود تھا اور نہ ہی صید علم میں تھا۔

XXV پتھر: کیا وقوع کی نسبت S40 صاحب یا ضرور شفاف نے گواہی کی نسبت آپ کو کوئی اطلاع رہی
 جواب: جی نہیں

2346-9535548

کنیشن ڈیشیاں 740 عقائد


بیان امدان کیسٹل سٹیڈیز 1132 عدینہ فقار نوائے سٹیڈیز حال حوالہ
 کیسٹل سٹیڈیز 1132 سید انکوائری بیان کے درپور وقوع
 سٹیڈیز 1132 - واقعہ 351، ڈیپان 740 کے دفعہ پیرا 1132
 زیر نظر سٹیڈیز 1132 سید انکوائری کے تحت دیگر واقعات
 کے بیان سے روانہ ہوئے تو میں دو سال کی لکھی گئی اور اپنی جناب سٹیڈیز
 سٹیڈیز سے اجازت کے لئے گئی تھی جو کہ خود روانہ ہو گیا ہے
 سٹیڈیز بیان ہے جو کہ درج ہے۔



کیسٹل سٹیڈیز 1132 عدینہ فقار
 سٹیڈیز 1132

ATTESTED
 Superintendent of Police
 Investigation, Abbottabad

29/04/21

XXXX: بدوز و جویم بوقت وقوع میں کیا گئی؟
 جواب: بدوز و جویم SHO کے پیرا گشت پر تھا گویا عدینہ فقار نوائے سٹیڈیز کے قریب
 SHO کے اجازت کے بغیر خود درانہ ہو گیا

XXXX: کیا پھر کے گواہ ہیں؟
 جواب: جی ہاں میں گواہ شدہ مثل مقدم میں حوالہ گئی ہیں لیکن نہ میں وقوع پر موجود
 تھا اور نہ ہی میں رشتہ دار ہوں اور وہ ہیں

XXXX: کیا آپ کے نزدیک رشتہ دار ہیں؟
 جواب: جی نہیں میں رشتہ دار نہیں ہوں

XXXX: کیا وقوع میں شہادت آپ کو علم ہے یا حضرت محل کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے؟
 جواب: جی نہیں میں علم نہیں ہے

XXXX: کیا وقوع میں شہادت SHO کے پیرا گشت کے حوالہ سے کیا اطلاع رکھتا ہے؟
 جواب: جی نہیں



0344-1908547

کیسٹل سٹیڈیز 1132 عدینہ فقار نوائے سٹیڈیز

نیشنل ندرنیڈ مسٹر 183 سینٹر کنٹرول روم پولیس اسٹیشن آف
 نے پروان ریفرنس بیان کیا ہے جس مورخہ 7/3/ کو
 کنٹرول روم میں خانہ جات سے مقدمات رجسٹرڈ شدہ کی تفصیل
 لکھ رہا تھا۔ لاٹ فریب 11:30 بجے نیاز انڈسٹریل حرر فون
 نے مقدمات گلت 135 تا 138 کی تفصیل لکھوائی۔ صبح فریب
 07:30 بجے مورخہ 8/3 کو ندیم قادر نے فون کر کے مقدم
 گلت 139 - مورخہ 8/3 جرم 15AA کی تفصیل لکھوائی ہے
 میرا یہ بیان ہے جو درست ہے

نیشنل ندرنیڈ مسٹر 183 سینٹر کنٹرول روم پولیس اسٹیشن

ATTESTED

Superintendent of Police
 Investigation, Abbottabad

na
 07-05-21

0346.9561350

سوال 1) وقوعہ کے روز آپ کنٹرول روم پر ٹھہری ہوئی ہو جو دیکھے۔
 جواب ٹھہری ہوئی ہو جو دیکھا۔


سوال 2) مقدمہ گلت 139 جرم 15AA کی تفصیل لکھوائی ہے۔
 جواب صبح تقریباً 07:30 بجے ندیم قادر نے فون کر کے لکھوائی

ندرنیڈ مسٹر 183
 07-05-21

بارنگ رپورٹ مورخہ

7-3-21 کنٹرول روم ایبٹ آباد

تاریخ	بجوالہ FIR نمبر	جرم	بذریعہ	برآمدگی	نام	خلاصہ
ہولناک	250	365-36	فیضان آباد زید خواجہ نور محمد پہلوان 036 9763078		شاہ نور کمال پور محل حسن پور	مذکورہ رپورٹ کے حوالے سے ایبٹ آباد کے ایک گروپ کے ایک شخص نے ایک رپورٹ دی ہے جس میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے ایک گروپ کے ایک شخص کو مارا ہے اور اسے زخمی کر دیا ہے۔
6	251	279 337-9	ذیل رپورٹ کے ذریعہ خا. 0.0 م. 0.0 0347 2336533		ایم کے ٹی ٹی گاہ 3/21	مذکورہ رپورٹ کے حوالے سے ایک شخص نے ایک گروپ کے ایک شخص کو مارا ہے اور اسے زخمی کر دیا ہے۔
لنواں پتھر	139	ISAAN KPR	محل شاہ	سٹیٹ 30 10 کالونی		مذکورہ رپورٹ کے حوالے سے ایک شخص نے ایک گروپ کے ایک شخص کو مارا ہے اور اسے زخمی کر دیا ہے۔

ATTESTED

 Superintendent of Police
 Investigation, Abbottabad

کمزور دل روزم ایچٹ آباد - 7-8-20

مارشلنگ رپورٹ مورثہ

(۹)

نام و پتہ	نمبر FIR	جرم	بذریعہ	موبائل نمبر	برآمدگی	نام	خاصہ
نوائس	136	188	سینٹ (نوائس)		1	حفظ و لفر برائے ملک	دکان لکھنؤ فرسٹ کراچی
6	137	6	6		2	ناصر دہلوی	6
6	138	90	SHO فضل شاہ			عجاز علی و لاکھڑ	دکان لکھنؤ فرسٹ کراچی
6	4/10	90	انظیر ایل سی			عزیز احمد	دکان لکھنؤ فرسٹ کراچی
مدیر لکھنؤ	235	376	سپار ایل سی			عزیز احمد	دکان لکھنؤ فرسٹ کراچی
حافظ	139	376	امین احمد	5918410		فیروز ناچیلو	دکان لکھنؤ فرسٹ کراچی
322	322	279	انور عزیز	0321 9845024		شعبہ دلاور	دکان لکھنؤ فرسٹ کراچی
6	323	3/4	ایچ سی ایل سی			25 لکھنؤ	دکان لکھنؤ فرسٹ کراچی

ATTESTED
 Superintendent of Police
 Station, Abhotabad

96

© مشہور ادارہ آزاد پبلشرز اسلام آباد

پارٹنل رپورٹ مورخہ

7-3-21

کنٹرول روم ایسٹ آباد

خام

نام تھانہ	حوالہ FIR نمبر	مجموعہ	بذریعہ	موبائل نمبر	برآمدگی	یام
ملوٹی	48	276	حصار 14C			نواز دلا مزرعوان کی چوکی چارہ بیٹا 162 خلیفہ کے احتیاج پر
ٹوٹنگا گل	88	96	SHO علی خان		610 (1)	3 راجاز دلا اسماعیل کی بیٹا (مرد) اور ان کی گھنٹہ مشین وینس سے 6/10
کوہہ	109	10 RBA	SHO ویرا خان			اصغر عباسی دلا گو عبدالرشید کی چھتہ زین
گنوتر	84	329 PPL	SHO زین	0343 8661348		مد عیدہ سینیٹ (1) زینم لعدہ 8/14 چھتہ ملوٹی بیوز کراچی کے یہ نزدیکی میں آئی تھی اور یہی وہ ٹوہین میں وہ بیٹ (12) خانم ناھلی شکتی ناھلی میں آئیں سے کارکنگ ایک (1) نوبت ایک نوبت
میزور	161	279	میزور			افضل دلا مزرعوان کی بیٹا (مرد) 620 خلیفہ کے احتیاج پر
4	162	4	شیر			1219
6	163	4				شیرور فورڈ ٹریک فرورڈ 7476
9	163 164	39 LS-A				طارق قصود دلا علی (مرد) پانڈو (مرد) جامع قید میں لوڈ بیکر کا
قوہ لہو	135	188	حصار 11C			حسن ابرار دلا عیدہ عینہ کی چھتہ (مرد) شکتی وینس کرنا تھا

ATTESTED

Superintendent of Police
Investigation, Abbottabad

27

Handwritten notes at the bottom of the page, including a circled number 5 and some illegible text.

ابتدائی اشدائی

Handwritten Urdu text on lined paper, mostly illegible due to fading and bleed-through.

TESTED

[Signature]

Department of Investigation, Anbatabu



دوست دوست و نماز او در دار سما بین اسبقه مثل قتلتی که
یعنی و خود جز از همه ملذذ و مراد ام بنده از باری است که کس شمشیر
نزد او در بند خاندان کوشش کند و از او پیروی کند - نماز منظر
اینست از پادشاهان در این دیوار گذشت و خود احمد ان الله یا کز نور او
روان میسازد چون از دنیا بشتر قبول کماله و خود بدین بنا که دلوروش
دوست بالا خود نماز باشد هر چه در سنای گیتی که طاعت در ارتداد دوست بر
در ارتداد خود بنده نشان گویا است گیاره و کسین کند که در محو و بنده کس
و خود احمد این که او در سنه کون است انعام - بعد از آن دلوروش خان
بازن کرد در شهره از ذوال بعد از انجمن است - بنوعی از نذر نرسد از این
مردم یک چیزی به چشم بود که بنده و بنده و بنده و بنده و بنده و بنده
آنست که بنده آن است که در بنده و بنده و بنده و بنده و بنده و بنده
بنده بنده آن است که در بنده و بنده و بنده و بنده و بنده و بنده
کسین از سر راه ارسال بنده است - بنوعی از نذر نرسد از این
نماند این بنده آن است که در بنده و بنده و بنده و بنده و بنده و بنده
بنده است بنده - بنوعی از نذر نرسد از این

امین
PASILE.com
07-03-02

29
مجموعه ضابطه احوالی

21935
2004
79

ابتدائی اطلاعی رپورٹ

فائل

ابتدائی اطلاع نسبت جرم قابل دست اندازی پولیس رپورٹ شدہ زیر دفعہ 152 مجموعہ ضابطہ نو جداری

ضلع سیٹ آباد ڈی اے سیٹ آباد
 تاریخ وقوع 7/3/2021 عتق 139 نمبر 40

1-	تاریخ وقت رپورٹ	2021-03-07	وقت 19:45	جائیدگی	7/3/2021
2-	نام و سکونت اطلاع دہندہ مستغیث	سید شاہ	5115 کھانہ کھانہ	نام و سکونت اطلاع دہندہ مستغیث	5115 کھانہ کھانہ
3-	مختصر کیفیت جرم (معدومہ) حال اگر کچھ لیا گیا ہو۔	زرخوش	5115 کھانہ کھانہ	مختصر کیفیت جرم (معدومہ) حال اگر کچھ لیا گیا ہو۔	5115 کھانہ کھانہ
4-	جائے وقوعہ فاصلہ تقاضا سے اور اس کی تفصیل	15/17 کھانہ کھانہ	15/17 کھانہ کھانہ	جائے وقوعہ فاصلہ تقاضا سے اور اس کی تفصیل	15/17 کھانہ کھانہ
5-	نام و سکونت ملزم	ملزم	ملزم	نام و سکونت ملزم	ملزم
6-	کارروائی جو تفتیش کے متعلق کی گئی اگر اطلاع درج کرنے میں توقف ہو یا ہو تو وجہ بیان کرو	جسٹس	جسٹس	کارروائی جو تفتیش کے متعلق کی گئی اگر اطلاع درج کرنے میں توقف ہو یا ہو تو وجہ بیان کرو	جسٹس
7-	تقاضا سے روائی کی تاریخ و وقت	7/3/2021	7/3/2021	تقاضا سے روائی کی تاریخ و وقت	7/3/2021

ابتدائی اطلاع نیچے درج کرو۔ درامہ و معامہ ذیل ہے تاکہ یہ درج ہو سکے۔
 1132 سرائے کلاں 357 کے نسیم کی نسبت
 کیا گیا ہے کہ نسیم نے اپنے صاحب کو بااعدارہا سال فائو سے لے کر 2 دریا فرائڈ
 کی تیار ہوا ہے جس کے بارے میں نسیم نے سٹیٹنگ میں بیان کیا ہے کہ وہ
 30 سالہ ہے اور 10 گاڑیوں کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اپنے گاڑیوں کے ساتھ ساتھ
 نسیم اپنے اپنے گاڑیوں کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اپنے گاڑیوں کے ساتھ ساتھ
 نسیم اپنے اپنے گاڑیوں کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اپنے گاڑیوں کے ساتھ ساتھ
 نسیم اپنے اپنے گاڑیوں کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اپنے گاڑیوں کے ساتھ ساتھ
 نسیم اپنے اپنے گاڑیوں کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اپنے گاڑیوں کے ساتھ ساتھ
 نسیم اپنے اپنے گاڑیوں کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اپنے گاڑیوں کے ساتھ ساتھ


ATTESTED

7/3/2021

31

CHARGE SHEET

- 1). I, **Zahoor Babar Afridi (PSP) District Police Officer Abbottabad** as competent authority hereby charge you **SI Faisal Ali Shah SHO PS Nawansher** as explained in the attached statement of allegations.
- 2). You appear to be guilty of misconduct under Police Disciplinary Rules 1975 (amended 2014) and have rendered yourself liable to all or any of the penalties specified in the said Police Disciplinary Rules.
- 3). You are therefore, directed to submit your written defense within seven days on the receipt of this Charge Sheet to the Enquiry Officer.
- 4). Your written defense, if any shall reach the Enquiry Officer within the specified period, failing which it shall be presumed that you have no defense to put in and in that case ex-parte action shall follow against you.
- 5). Intimate whether you desire to be heard in person or otherwise.
- 6). A statement of allegations is enclosed.


(~~Zahoor Babar Afridi~~) PSP
District Police Officer
Abbottabad

Learned counsel for the accused present. Learned SPP Miss. Tasleem Shahid Advocate also present.

The instant cancellation report is submitted in case FIR # 139, dated 07.03.2021, u/s 15AA KPK, PS Nawansher, Abbottabad. The local police have sought for cancellation of the FIR on the ground that the FIR is fake, fictitious and was preplanned to benefit the accused namely Hazrat Gul S/o Bahadar Gul R/o Bannu in a murder case registered against him on the same day at District Bannu vide FIR # 178, dated 07.03.2021, u/s 302/324/34 PPC PS Cantt, District Bannu.

During course of proceedings, the accused appeared before the court and contested the instant cancellation report by supporting the FIR to be true and correct.

Arguments heard and record perused.

Perusal of record reveals that the through FIR # 139, the accused namely Hazrat Gul was charged for commission of offence u/s 15AA KPK. As per the story narrated in the FIR, while on gusht, the SHO PS Nawansher, on suspicion searched accused and 30 bore pistol, bearing # 2906254 was found in his possession. On 08.03.2021, accused was produced before the court of Learned JM-III, Abbottabad/MOD, the offence was available therefore, the accused was ordered to be released on bail. Later on, it surfaced that, on same day and time accused was also charged in case FIR # 178, dated 07.03.2021, u/s 302/324/34 PPC, PS Cantt, District Bannu and the present FIR was preplanned so as to favour the accused in FIR No. 178. Accordingly, departmental inquiry was initiated against the SHO namely Faisal Shah of PS Nawansher, Abbottabad


JM I

59/ISA

17-011-24

24-02-22

1338
1078



Handwritten signature or initials.

(complainant in the instant case) and other police officials involved in the matter. During the inquiry, the accused SHO and other officials were found guilty of the charges leveled against them and they were dismissed from service vide order dated 10.06.2021. Upon directions of this court, the fact finding as well as final inquiry reports are produced before the court today and are placed on file. Perusal of the same revealed that the officials of the concerned police station in their statements before inquiry admitted that the FIR was registered at about 04:30 AM or 05:00 AM in the morning time on 08.03.2021 and in this respect one day prior i.e. on 07.03.2021, the SHO called the Muharrir to keep pending the Roznamcha of 07.03.2021 as he has to register an FIR and on the order of the SHO, the Muharrir kept the Roznamcha of 07.03.2021, pending till 08.03.2021 (morning) while in the FIR the time of lodging the FIR was mentioned as 20:40 hours (08:40 PM). Meaning thereby the FIR was registered in back date. Similarly, one constable Sheraz No. 1132 also admitted before the inquiry that his name was included in the Fard as witness, but neither he was present on the spot nor he has signed on the Fard. Since, in the department inquiry it is proved that the FIR was fake, bogus and preplanned therefore, this cancellation report was filed. As the prosecution does not want to proceed with the instant FIR and has requested for its cancellation, therefore, in view of the above while agreeing with the prosecution this case in hand stands cancelled. File be consigned to record room after its necessary completion and compilation.

73
8817

17/05/22
 Sajid Amin
 JM-1/Magistrate Sec.30
 Abbottabad